

SENATE OF PAKISTAN

SENATE DEBATES

Thursday, August 18, 1988.

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House), Islamabad at ten of the clock in the morning, with Mr. Acting Chairman (Syed Muhammad Fazal Agha) in the Chair.

RECITATION FROM THE HOLY QURAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ
مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ط وَلَنبَشِّرِ
الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ
عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

ترجمہ: اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے، تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔

(سورہ البقرہ، ۱۵۵ تا ۱۵۷)

SENATE OF PAKISTAN

SENATE DEBATES

Thursday, August 18, 1988.

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House), Islamabad at ten of the clock in the morning, with Mr. Acting Chairman (Syed Muhammad Fazal Agha) in the Chair.

RECITATION FROM THE HOLY QURAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ
مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ط وَلَنبَشِّرُ
الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ
عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

ترجمہ: اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے، تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔

(سورہ البقرہ، ۱۵۵ تا ۱۵۷)

QUESTIONS AND ANSWERS

جناب قائم مقام چیئرمین : بسم اللہ الرحمن الرحیم ، معزز اراکین
سوالا ت اور ان کے جوابات ایوان کی میز پر رکھ دیئے گئے ہیں اور ان
کے جوابات پڑھے ہوئے تصور کئے جائیں گے۔

RELEASE OF FUNDS FOR SPECIAL DEVELOPMENT PROGRAMME

161. *Qazi Abdul Latif: Will the Minister for Local Government and Rural Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the total amount granted by the former Prime Minister Muhammad Khan Junejo for the development schemes of the Senators for 1987-88 has not been released so far despite the passage of full one year ; and

(b) if answer to (a) above be in the affirmative whether there is any proposal under consideration of the Government to release the said amount without further delay ?

Mr. Sartaj Aziz : (a) No. The funds for the Special Development Programme for Local Development, Education and Housing are released by the Ministry of Finance direct to the Provincial Finance Departments on quarterly basis in the special non-lapsable accounts operated by the Finance Departments of the Province concerned which further disburse the funds against the schemes approved by the Federal Government.

The Provincial Governments have been authorised to complete the ongoing schemes expeditiously and start implementation work, after review, on all such schemes which were approved but on which work could not be started.

For the year 1987-88 out of an allocation of Rs. 500.00 million an amount of Rs. 1114.00 million was released by the Ministry of Finance to the provincial Finance Department upto June 1988. The last quarter instalment of Rs. 386.00 million is yet to be released by the Ministry of Finance.

(b) The matter regarding release of last quarter instalment for the year 1987-88 is under consideration.

ENGLISH AS MEDIA OF INSTRUCTIONS

162. *Nawabzada Jahangir Shah : Will the Minister for Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that English has recently been introduced as media of instructions in the Federal Government Model Schools at Islamabad ; if so, the reasons therefor ; and

(b) whether Government is aware of the difficulties the change has erected for those students who have studied subjects like, Mathematics and Science in Urdu previously and if so ; what it proposes to do for such students ?

Sardar Wazir Ahmed Jogezeai : (a) The option to use English as one of the media of instructions besides Urdu or an approved Provincial language for Mathematics, Physics, Chemistry, Biology and General Science at Secondary level was reconsidered and allowed in 1987 throughout the country, including Model Schools in Islamabad.

(b) Since the change is optional, the question of such difficulties does not arise. However, for those who preferred to switch over from Urdu to English medium special coaching classes have been arranged.

163. *Nawabzada Jahangir Shah : Will the Minister for Communications be pleased to state :

(a) the total number of officers in grade 16 and above of the T&T Department working at Sargodha city proper indicating also their names, designation and length of stay at Sargodha separately, in each case ; and

(b) whether the Government has any proposal under consideration to transfer officers from Sargodha whose stay in that station is five years or more ?

TENURE OF STAY OF OFFICERS AT SARGODHA

Mr. Muhammad Aslam Khan Khattak : (a) The list of officers of grade-16 and above with designations and stay at Sargodha is placed on the table of the House.

(b) At present only 4 officers have completed their tenure of 3 years at Sargodha.

They will be transferred when no exigencies of service are involved.

[Mr. Muhammad Aslam Khan Khattak]

OFFICERS OF GRADE-16 AND ABOVE POSTED AT SARGODHA

	Scale	Since
1. Mr. Abdul Latif Gandapur, Divisional Engineer Telegraph	B-18	17-9-1986
2. Mr. Muhammad Rafique Bajwa, Divisional Engineer (Coaxial Cable)	B-18	1-7-1985
3. Mr. Qamaruzzaman Talib, Assistant Divisional En- gineer (Phones)	B-17	18-6-1980
4. Mr. Saghir Ahmad, Assistant Divisional Engineer (N.W.D.)	B-17	11-11-1986
5. Mr. Muhammad Suleman, Accounts Officer Tele- phone Revenue	B-17	23-5-1983
6. Mr. M. Aslam Ch., Sub. Divisional Officer Telegraph..	B-16	4-1-1988
7. Mr. Nazir Ahmad, Assistant Engineer (Internal) ..	B-16	4-1-1988
8. Mr. Munir Ahmad, Assistant Engineer (Trunks).	B-16	31-6-1985
9. Mr. Muhammad Latif, Assistant Engineer (Electrical)	B-16	25-11-1986

GRANT OF TELEPHONE CONNECTIONS FROM EXCHANGE AT LORA TEHSIL
(ABBOTTABAD)

164. *Mr. Akhunzada Behrawar Saeed : Will the Minister for Communi-
cations be pleased to state whether it is a fact that a telephone exchange was
established at Lora Tehsil, District Abbottabad during the year 1985 ; if so, the total
number of applications registered during the year 1985, for the grant of telephone
connections from the said exchange indicating also the names of persons who have not
been given telephone connections so far with reasons therefor ?

Mr. Muhammad Aslam Khan Khattak : Yes. Exchange was commissioned on
26th February, 1987 number of applications registered in 1985 was 71, out of which 35
telephone connections have already been provided and 36 applications are still
pending. These connections are required to be installed in surrounding villages of
Lora where cable and lines are not available and these telephones can not be provided
within normal cost.

List of 36 pending applicants is placed on the table of the House.

1. Muhammad Farooq Lora.
2. Muhammad Zahoor Abbasi.
3. Fazal Dad Bhatti.
4. Muhammad Matloob Lora.
5. Muhammad Javed Khan.
6. Khalid Ur Rehman.
7. Fazal Ur Rehman.
8. Juma Khan.
9. Zulfiqar Ahmed.
10. Abdul Sattar Khan.
11. Zardad Khan.
12. Hafiz Ul Khan.
13. Sardar Muhammad Azal Razzak.
14. Sabur Khan.
15. Tikka Khan.
16. Muhammad Abbarat Abbasi.
17. Mrs. Khalida Abed.
18. Naik Muhammad.
19. Muhammad Jalil Abbasi.
20. Ch. Muhammad Sadiq.
21. Ashfaq Abbasi.
22. Abdul Rafiq.
23. Abrar Shah.
24. Muhammad Shah.
25. Muhammad Azim Shah.
26. Muhammad Ilyas.
27. Ahmed Syed Abbasi.
28. Muhammad Saien.
29. Abdul Ghafoor Abbasi.
30. Muhammad Sarwar.
31. Haji Abdul Feteah.
32. Muhammad Ilyas.
33. Aftab Ahmed.
34. Atta-ur-Rehman Abbasi.
35. Zaheer Shah.
36. Ghulam Mustafa.

[Mr. Muhammad Aslam Khan Khattak]

TELEPHONES GRANTED AS RECOMMENDED BY SENATORS FROM SINDH.

165. ***Mr. Ahmedmian Soomro :** Will the Minister for Communications be pleased to state :

(a) the total number of telephone connections recommended by each Senator from Sind against the "monthly quota" since October, 1987 ; and

(b) the total number of telephones installed on these recommendations indicating also the dates of installation ; if any, separately in each case ?

Mr. Muhammad Aslam Khan Khattak : (a) A total of 192 telephone connections have been recommended by Senators since October, 1987. Details of Telephone connections recommended by honourable Members of Senate from Province of Sind from October, 1987 to July 1988, separately for each Member, is placed on the table of the House.

(b) Information is being collected and will be placed on the table of the House in due course.

STATEMENT SHOWING QUOTA OF SENATORS IN EACH MONTH

QUESTIONS AND ANSWERS

1311

S. No.	Name of Senators	October, 1987	November, 1987	December, 1987	January, 1988	February, 1988	March, 1988	April, 1988	May, 1988	June, 1988	July, 1988	August, 1988
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Ahmed Iqbal Soomro	LH	KR	KR	KR	KR	KR	KR	LH			
2.	Aijaz Ali Jatoti	KR	LH	RWP	KR	RWP	KR	KR	KR			
3.	Asghar Ali Shah	KR	RWP	KR	KR		KR	HYD	KR			
4.	Abdul Majheed Kazi	KR	NBS	KR	KR	KR	KR	KR	KR	Sialkot		
5.	Ali Muhammad Sheikh	RWP	LH	LHC	KR	KR	KR	KR	KR	RWP		
6.	Ghulam Haider Talpur	KR	Jhang	LH	RWP	KR	IBA	KR	HYD		HYD	
7.	Hasan A. Sheikh	KR	KR	KR	KR	KR	KR	KR	IBA		HYD	
8.	Mir Hazar Khan Bijarani	KR	KR	KR	KR	KR	KR	KR	HYD		GJR	
9.	Jam Karam Ali	KR	KR	KR	KR	IBA	KR	KR	KR	GJR	KR	KR
10.	Javed Jabbar	KR	LH	LH	KR	KR	KR	KR	KR	Larkana	KR	KR
11.	Prof. Khurshid Ahmed	KR	KR	KR	KR	KR	KR	KR	KR			
12.	Muhammad Mohsin Siddiqui	IBA	IBA	RWP	IBA	RWP	KR	KR	FBD	RWP		
		KR	KR	KR	KR	RWP	LH	RWP	RWP	RWP	KR	KR
		KR	KR	KR	IBA	KR	KR	KR	KR	KR	KR	KR

PROMISED REPLIES

TAXES ON THE SALE OF VEGETABLES OR CATTLE

*187. **Qazi Hussain Ahmed** : Will the Minister for Food, Agriculture and Cooperatives be pleased to state :

(a) whether the Government is aware of the fact that a poor farmer has to pay the following taxes for bringing cattle or vegetables in the market.

Mr. Muhammad Ibrahim Baluch : (a) The farmer does not pay all these four taxes. The position with respect to each tax is as under :

(i) **Market Fee**

Market fee levied on the sale and purchase of agricultural produce is paid by the buyers and not by the farmer in Punjab and Sind. There is no market fee in NWFP and Baluchistan.

(ii) **Local Rate**

There is no local rate on cattle or vegetables.

(iii) **District Export Tax**

Punjab

In Punjab tax is levied on cattle only if exported to other districts other-wise items like vegetables of all kinds are exempted from payment of this tax.

Sind

Export tax charged by the district council on animals and vegetables are as under :—

- | | |
|--|----------------------|
| (i) Cow, Buffalo and Bullocks. | Rs. 5.00 per head. |
| (ii) Sheep, Goats and Lambs. | Rs. 2.50 per head. |
| (iii) Vegetables (all kinds) Fresh and Dried including Onion and Potatoes. | Rs. 0.50 per 40 Kgs. |

[Mr. Muhammad Ibrahim Baluch]

NWFP

The export tax charged is as under :—

(i) Cattle	Rs. 10.00 per head
(ii) Sheep and Goats	Rs. 2.00 per head
(iii) Vegetables	Rs. 1.20 per 40 Kgs.

Baluchistan

The export tax is charged in Lasbella district only and the rates are as under :

Large Animals	Re. 1.00 per head
Small Animals	Re. 0.10 per head
(iv) Octroi Charges	

Punjab

Octroi charges are paid only if the farmer brings, vegetables to the market located in urban councils.

Sind

Rate of Octroi for animals vary from one council to another but does not exceed Rs. 20.00 per head. For vegetables the octroi rate is Rs. 0.50 per 40 Kgs.

NWFP

The octroi charges in NWFP are as under :—

Sheep and Goats	Re. 0.25 per head
Other Cattle	Rs. 2.00 per head
Fresh vegetables	Re. 1.00 per 100 kgs.

Baluchistan

The octroi varies from council to council, however, it is less than a rupee per head for animals and per maund for vegetables.

(b) Whether the government will take steps to lighten this burden on a farmer.

The taxes/rates/fees are levied by the Union councils/District councils to meet the requirements of the development programmes in their respective areas.

NAMES OF ADVOCATES WHO WERE PAID PROFESSIONAL FEE OF RS. 50,000.00 OR ABOVE DURING THE PERIOD FROM 5-7-1977 TO 30-6-1985, IN REPLY TO QUESTION NO. 35 ASKED ON 28-7-1987.

Name of Counsel	Organization	Amount paid	Brief detail of the case
Mr. A. K. Brohi	Pak. Steel	Rs. 1,32,000	Constitutional petition Pak. Steel Labour Union <i>Vs</i> Pak. Steel & others in Sind High Court. Matter relates to the payment of compensation/allowance to the workers of the Pak. Steel.
Mr. A. K. Brohi	N.B.P.	Rs. 60,000	Fee paid in appeal against the judgement in suits filed by some officers of the Bank against the Bank challenging their demotion.
Mr. S. S. Pirzada	N.B.P.	Rs. 60,000	Fee paid for appeal filed by Mr. Ghani Saeed against the Bank in which the question whether the Staff Services Rules were statutory or not, was decided.
Mr. S. S. Pirzada	H.B.L.	Rs. 60,000	Fee paid for appeal (CPSLA No. 23-R/1981 H.B.L. <i>Vs</i> NIRC & others).
Mr. S. S. Pirzada	A.B.L.	Rs. 50,000	Write petition at Multan in which contempt proceedings were quashed against the Senior Executive of the Bank.
Mr. Hamoodur Rehman (Late)	N.B.P.	Rs. 1,00,000	Appeal against the London High Court decree in suit of Dalmia Cement Ltd. of India against the Bank for £ 3535830,09 in 1976.
Mr. Fateh Ali Vellani Mr. S. A. R. Bilgrami Mr. Hamoodur Rehman (Late)	A.B.L.	Rs. 73,565 Rs. 55,350 Rs. 75,000	Payment made in connection with the defence of Arbitration proceedings lodged by the Dredging Contractor M/s. J.P. Brockhoven of Netherland in the court of Arbitration.

[Mr. Muhammad Ibrahim Baluch]

Name of Counsel	Organization	Amount paid	Brief detail of the case
M/s. Zafar Law Associates.	Pioneer Steel Mills, Lahore.	Rs. 55,000	Writ petition filed by <i>ex-owners</i> of the company for claiming Higher compensation.
M/s. Zafar Law Associates.	Pak. Arab Refinery.	Rs. 2,81,800	Filing of writ petition before the Lahore High Court against the Incometax officers order to re-open the already completed assessment for the year 1981-82 to 1983-84.
M/s. Orr-Dignam & Co.	Quality Steel Works Ltd., Karachi.	Rs. 2,21,464	In different cases during the referred period.
M/s. Orr-Dignam & Co.	P.I.A.	Rs. 1,97,104	Professional charges in respect of "Crude processing & Marketing agreement project".
M/s. Orr-Dignam & Co.	State Life Insurance.	Rs. 70,000	Fee Paid for all services included advices documentation of title, deeds etc. of the property worth over 30 Million, purchased by the corporation.
M/s. Khalid Anwar & Co.	N.B.P.	Rs. 60,000	Fee in suits filed by some officers of the Bank against the Bank, challenging their demotions & for declaring those null & void.
Mr. Khalid M. Ishaque.	N.D.F.C.	Rs. 50,000	Legal opinion regarding elimination of "Riba" from the economy & amendments in various laws.
M/s. M. Ali Sayeed.	Quality Steel Works, Karachi.	Rs. 1,31,600	For four petitions filed challenging the take over of the company under the Economic Reforms Order, 1972.
Syed Nasiruddin	H.B.F.C.	Rs. 57,000 (Paid 50% in advance).	For filing 19 petitions in Hussain D. Silva cases in the Supreme Court of Pakistan.
M/s. Fazeel & Co.	Karachi Pipe Mills Ltd.	Rs. 75,000	Fee paid against the judgement of the Labour Court as well as Labour appellate Tribunal in Sindh High Court filed by Karachi Pipe Mills Ltd. Employees Union .
Mr. Liaquat Merchant	P.I.A.	Rs. 1,19,000	Professional fee charges in the Arbitration case between P.I.A. & M/s. Peoples Enterprise Ltd.
Mr. Khawaja M. Bilal	State Life Insurance.	Rs. 50,000	Fee paid for conducting an appeal which arose out of litigation in respect of determination of lease of Corporation's plot No. 720-A, by the Cantt. Board.
Mr. Sardar M. Iqbal	State Life Insurance.	Rs. 1,40,570	For conducting of appeals in Supreme Court pertaining to interpretation as to scope of Group Insurance policy issued to M/s. Pak. Tobacco Co. Ltd.

Name of Counsel	Organization	Amount paid	Brief detail of the case
Mr. Mohammad Amin But. Income Tax Adviser, Lahore.	PASSCO.	Rs. 55,000	Appeal against the assessment order of the Income Tax Authorities for the year 1981, amounting to Rs. 61.65 million.
--do--	--do--	Rs. 50,000	Appeal against the assessment order of the Income Tax Authorities for the year 1982, amounting to Rs. 101.53 million.
Dr. Audali Law Firm, Al-Khober, Saudi Arabia.	Overseas Pakistani Foundation.	SR. 30,000 or Rs. 88,450	For filing a suit against SATCO/OMP-JV Contractor in Sharia Court, Damam, against the termination of construction contract.
M/s. Zafar Law Asso- ciates, Lahore.	Pak. Arab Re- finery Ltd.	Rs. 281,000	Fee paid in connection with the filing of writ petition before the Lahore High Court against the Income Tax Authorities order to re-open the already completed assessments for the years 1981-82, 1982-83, 1983-84.
--do--	Pioneer Steel Mills Ltd.	Rs. 67,000	Writ petition in the Lahore High Court challenging the determination of compensation worked out on account of taken over of the "Model Steel Mills" by the Federal Government.
M/s. Fazeel and Com- pany, Karachi.	Karachi Pipe Mills Ltd.	Rs. 75,000	Appeal against the judgements of the Labour Court/Labour Appellate Tribunal in Sindh High Court vide Constitutional petition No. 728/80.
Mr. Ayaz Hussain, Advocate.	PECO	Rs. 52,312	Appeal against the order of Collector of Customs before the CBR, regarding levy of higher rate of duty, on remeltable scrap/plates imported equivalent to Rs. 52,31,259.
--do--	--do--	Rs. 56,065	Civil suit for the recovery of Rs. 64,49,983/- against the Chartered Bank Ltd. regarding the purchase of 367 tons M.S. Angles for manufacturing of Tower to be supplied to WAPDA.
--do--	--do--	Rs. 65,000	Writ petition before the High Court, Lahore challenging the price equalization surcharges paying High Court to direct the Collector of Central Excise and Sea Customs, Karachi to refrain from realizing any amount as price differential.
--do--	--do--	Rs. 58,260	Suit filed against M/s. Rafay N. Haleem Ltd. for recovery of Rs. 93,59,068/- on account of production losses etc.
--do--	--do--	Rs. 75,000	PECO/V.S. Independent Bulk Commodity Trading Company Limited London. As a result of failure to supply 18000 tons steel scrap, PECO claimed damages and recovered Rs. 20,65,253/- over and above the involved amount.

[Mr. Muhammad Ibrahim Baluch]

NAMES OF ADVOCATES WHO WERE PAID PROFESSIONAL
FEE OF Rs. 50,000.00 OR ABOVE DURING THE PERIOD
FROM 1-7-1985 TO 31-12-1986.

Name of Counsel	Organization	Amount paid	Brief detail of the case
Mr. Justice (Rtd.) Fakhraddin G. Ibrahim.	Pak. Steel	Rs. 1,00,000	In the case of wark-worth coal sales Ltd. & Ambrosia International Ltd. <i>Vs</i> Pak. Steel. Matter relates to the purchase of coal by the Pak. Steel.
Mr. Khalid M. Ishaque.	Pak. Steel	Rs. 75,000 (as 50% of fee)	Appeal in High Court Pak. Steel <i>Vs</i> D.C. & other. Matter relates to the payment of compensation of Land acquired by Pak. Steel.
Mr. Khalid M. Ishaque.	Pak. Steel	Rs. 35,000 (as 50% of fee)	In suit of Syed Sami Ahmed <i>Vs</i> Pak. Steel. Matter relates to a fatal accident in which Syed Vali Ahmed S/o Syed Sami Ahmed XEN died with a Russian Engineer in Coke oven.
Mr. S. M. Zafar	P.I.A.	Rs. 50,760	Professional fee in writ petition P.I.A. & other <i>Vs</i> the Addl. Distt. Judge, Rawalpindi & Shakil Express Ltd. before the High Court at Rawalpindi. Payment made in the form of Air tickets for travel on P.I.A. net-work. No cash payment whatsoever was made.

HOUSING REQUIREMENT

*127. **Syed Mazhar Ali** : Will the Minister for Housing and Works be pleased to state :

- (a) the existing backlog and yearly incremental requirements of housing in the urban areas of the country ; and
- (b) the total number of plots developed in the last five years, separately for each year with province-wise breakup ; and
- (c) the reasons for not launching self-financing plot development schemes in the urban areas of the country.

Mr. Muhammad-Hanif Tayyab : (a) Already replied.

(b) Already replied.

(c) All plots have been developed through self-financing schemes.

HOUSING PROBLEM

*132. Syed Mazhar Ali : Will the Minister for Housing and Works be pleased to state whether the Government is taking steps to solve the evergrowing problem of housing for :

- (a) Urban Poor.
- (b) Low income government employees.
- (c) Low-income non-government employees, if so the details ; thereof ;

Mr. Muhammad Hanif Tayyab : (a) Already replied.

(b) Already replied.

(c) PUNJAB

This category will benefit out of the plots as per the allotment policy made by Department of Housing, Physical and Environmental Planning, Government of Punjab.

SIND

Housing schemes meant exclusively for low-income families have been launched. Approximately 30,000 low-cost housing units are planned to be constructed in Surjani Town on plots measuring 55 sq. meter/ 66 sq. meter. In addition, during the last 5 years 2316 flats have been constructed in North Karachi.

NWFP

Plots measuring 5 marla have been developed in all the area development schemes to cater for low income groups in the province. In addition 3 marla plots are also being developed.

BALUCHISTAN

There is no such scheme in the Province of Baluchistan.

CAPITAL DEVELOPMENT AUTHORITY

In Islamabad, the CDA has been developing residential plots on self-financing basis but the cost of acquisition of land is met from a revolving Fund which was initially started by a grant from the Government.

FARM MANAGEMENT PROGRAMMES FOR FARMERS PROMISED
MATERIAL TO STARRED SENATE QUESTION ON 63 PUT ON
14-1-88

PUNJAB :

In the Punjab, Farm Management techniques are being transferred to the farmers individually and collectively through Agricultural Extension Services. Under the 'Training and Visit' (T&V) programme 64 farmers representing all sizes of land holding are selected and provided training in the latest techniques by the Field Assistants on fort-nightly basis on specified days. Field Assistant Training Institutes also provides training to Agriculture staff and farmers in the field of agricultural technology, horticulture and plant protection. Practical demonstrations of cultivation techniques are also arranged on farmers fields. Under this programme it is also proposed to select 25 farmers for two days training in each of the three Field Assistants Training Institutes and then for next five days take them round Research Institutes and to Farms of the progressive farmers so that they benefit from each others experiences. Travel expenses will be borne by the Government.

SIND :

In Sind Farm Management Programme was introduced to the farmers through Training and Visit Programme (T&V) under Agriculture Extension Project. The Field Assistants are required to select 80 to 100 small farmers in order to provide advance technology in the field of agriculture.

N.W.F.P. :

Agriculture Training Institute NWFP Peshawar is responsible for conducting such training programme at the Divisional Headquarters in which farmers possessing less than 25 acres of land also participate. About 120 farmers are trained during a year in five successive batches of 24 through one-week course/study tours of Agriculture Research Stations followed by visit of veterinary hospitals, poultry farms and artificial insemination centres where demonstration on different skills are arranged for them.

BALUCHISTAN :

No Farm Management training is provided to the farmers under Baluchistan Agriculture Extension Services or through Adaptive Research Project. However, regular field days are organized for deciduous fruit growers at various locations in the province. During 1986-87 thirteen field days were organized with a participation of 406 farmers.

SECRETARIES AND COMMISSIONERS/DY. COMMISSIONERS WORKING IN PROVINCES

*10. **Mr. Muhammad Tariq Chaudhry :** Will the Minister Incharge of the Establishment Division be pleased to state :

- (a) the total number of Secretaries and Commissioners working in various provincial departments indicating also their province-wise breakup ;
- (b) the total number of Secretaries and Commissioners of these departments who belong to Central Service department-wise and province-wise breakup ; and
- (c) the names of districts of all the four provinces where presently posted Deputy Commissioners ; hail from the Central Service indicating also the names of districts where Deputy Commissioners from provincial service are posted ?

Minister Incharge (Establishment Division) : (a) The necessary statement in reply to the question may please be seen at Annex-I.

- (b) The necessary statement in reply to the question may please be seen at Annex-I.
- (c) Names of Districts where Central Services Officers are posted as Deputy Commissioners and the names of Districts where Provincial Services Officers are posted as Deputy Commissioners may be seen at Annex-II.

[Minister Incharge (Establishment Division)]

ANNEX-I

TOTAL NUMBER OF SECRETARIES AND COMMISSIONERS WORKING IN THE PROVINCES.

a.	Punjab	NWFP	Sind	Baluchistan
	Secretary	Secretary	Secretary	Secretary
	Commissioner	Commissioner	Commissioner	Commissioner
29	8	22	14	6
			3	21
CENTRAL SERVICES OFFICERS.				
b.	4	9	10	5
			3	7
				5

ANNEX-II

c. **Names of District where Central Services Officers are posted as Deputy Commissioner.**

PUNJAB

1. Lahore.
2. Okara.
3. Gujranwala.
4. Sialkot.
5. Sargodha.
6. Bhakkar.
7. Faisalabad.
8. Toba Tek Singh.
9. Multan.
10. Vehari.
11. Dera Ghazi Khan.
12. Bahawalpur.
13. Rawalpindi.

SIND

1. Karachi (South) (East) & (West).
2. Badin.
3. Sanghar.
4. Dadu.
5. Sukkur.
6. Larkana.
7. Shikarpur.
8. Khairpur.
9. Nawabshah.

Names of Districts where Provincial Services Officers are posted as Deputy Commissioner.

PUNJAB

1. Sheikhpura.
2. Kasur.
3. Gujrat.
4. Jhelum.
5. Attock.
6. Chakwal.
7. Khushab.
8. Mianwali.
9. Jhang.
10. Khanewal.
11. Sahiwal.
12. Muzaffargarh.
13. Leiah.
14. Rajanpur.
15. Bahawalnagar.
16. Rahimyar Khan.

SIND

1. Karachi (Central).
2. Hyderabad.
3. Thatta.
4. Tharparkar.
5. Jacobabad.

[Minister Incharge (Establishment Division)]

NWFP

1. Peshawar.
2. Bannu.
3. Mansehra.
4. Mardan.
5. Abbottabad.
6. Dera Ismail Khan.
7. Kohat.

NWFP

1. Kohistan.
2. Swat.
3. Dir.
4. Karak.
5. Chitral.
6. Charsada.
7. Swabi.

BALUCHISTAN

1. Dera Bugti.
2. Panjgur.
3. Kohlu.
4. Chagai.
5. Quetta.
6. Loralai.
7. Kalat.
8. Ziarat.
9. Sibi.
10. Lasbela.
11. Jafarabad.
12. Tamboo.

BALUCHISTAN

1. Gwadar.
2. Kachi.
3. Kharan.
4. Pishin.
5. Turbat.
6. Killa Saifullah.
7. Zhob.

HIRED ACCOMMODATION FOR OFFICES

*45. **Malik Sadullah Khan :** Will the Minister for Finance and Economic Affairs be pleased to state :

(a) The total number of plazas, complexes, bungalows, flats, houses, shops and other residential accommodation hired for the offices of all the organizations functioning under the Finance Division at Tehsil, District, Province and Federal level.

(b) The total amount of rent being paid amounting to the owners of the said accommodation ; and

(c) The total amount allocated during the current fiscal year for the construction of Government offices of those organisations.

Dr. Mahbubul Haq : (a) 9159.

(b) Rs. 29,99,39,681.

(c) The amount allocated in the current fiscal year (1988-89) by the organisations/corporations under administrative control of this Division is as under:—

(i) Pak Libya Holding Company.	Rs. 9.520 Million
(ii) Pak Kuwait Investment Company.	Rs. 5.000 Million
(iii) Income Tax Department.	Rs. 7.400 Million
(iv) Custom and Central Excise Department.	Rs. 7.800 Million
	<hr/>
Total :	Rs. 29.720 Million
	<hr/>

PENSION TO EX-EMPLOYEES OF REPCO BY WAPDA

*65. **Prof. Khurshid Ahmed** : Will the Minister for Water and Power be pleased to state the names of the employees of REPCO Electric Company Rawalpindi who, after REPCO was taken over by WAPDA, had either retired on 1-7-1979 or died after having completed 25 years service but were not allowed pensionary benefits with reasons therefore separately in each case.

Illahi Bukhsh Soomro : No case of pension payment of G. P. Fund contribution for the period prior to taken over of REPCO by WAPDA on 23-5-1981 is pending. Some cases of Ex-REPCO employees who retired/died on completion of 25 years services are under process and waiting final decision due to certain anomalies in the existing Rules on the subject. (A list of which is attached at Annexure-A).

Efforts are being made to finalise these cases within the shortest possible time.

[Illahi Bukhsh Soomro]

ANNEXURE 'A'

**REPCO EMPLOYEES RETIRED/DIED WHOSE PENSION CASES IN PROCESS IN
RESPECT OF AEB ISLAMABAD.**

S. No.	Name of employees with Father's name.	Designation	Date of Retirement/Death.	Reason for not allowing pension so far.	Remarks of Director Insurance & Pension.
1.	Mr. Muhammad Zulf S/o. Bostan Khan.	LFM-II	2-5-1987 (Retired)	The Director Pension & Insurance had objected the case with the remarks that the option was not given within due date. The case has been again resubmitted to Director Insurance & Pension <i>vide</i> Xen(E) City div. Rawalpindi letter No. DRI/Acctt/Pension/3709 dated 20-4-88.	Claims No. 7816 closed for option not valid. Matter referred to CE AEB, Wapda, Islamabad.
2.	Mr. Fazal Dad S/o Ghulam Qadir.	LM-I	4-11-1987 (Retired)	Same position as above, case resubmitted <i>vide</i> Xen City Rawalpindi letter No. DRI/Acctt/Pension-2483-86 dated 17-3-88.	Claim No. 7818 —do—
3.	Mr. Muhammad Zarif S/o Muhammad Sharif.	LM-II	9-11-1987 (Retired)	The service of official towards pension has counted from 1-5-61 the date of confirmation to 6-1-87, which is 25 years eight months and 6 days but official has availed E.O.L. for 9 months 28 days. Hence his service is less for 52 days than 25 years, therefore official has not been allowed pension. However his case been sent to competent authority for condonation of above mentioned less period. The case has been sent to C.E. Admn(Power) <i>vide</i> G.M. Operation letter No. 11161/640/ADA/E-II/A-3-250/18 dt. 10-5-88.	Claim No. 7817 closed. Did not opt for pension within stipulated date. Option dated 7-4-84. Service is less than 25 years qualifying for pension also.
4.	Mr. Muhammad Sharif S/o Abdul Azim.	LM-I	5-3-87 (Retired)	The service of official towards pension has been counted from 1-5-64 the date of confirmation to 2-8-86 (date before LPR) which is 25 years 3 months but official has availed E.O.L. for four months & 16 days, hence his service is 45 days less than 25 years, therefore the official has not been allowed pension. However, his case has been sent to C.E. (Admn) Power Wapda, Lahore <i>vide</i> G.M. (Opr) No. 11161-62/G.M.O./ADA / E-II/A-3-250/18 dated 10-5-88.	Claim No. 7296 closed. Service less than 25 years qualifying for pension.

1	2	3	4	5	6
5.	Mr. Sultan Ahmed S/o Gulab Khan.	LM-I	28-2-88 (Retired)	The service of the official has been counted for pension from 1-12-62, the date of confirmation to 1-3-87 (Date of LPR before retirement) which is 24 years 2 months and 23 days after deducting 8 days E.O.L., therefore, the official has not been allowed for pension and his case has been filed. The case was submitted by Xen(E) City Division, Rawalpindi.	Claim No. 8145 closed. Service less than 25 years qualifying for pension.
6.	Mr. Abdul Khaliq S/o Safullah.	ALM	4-4-87 (Retired)	His case was submitted to Director Pension Lahore <i>vide</i> Xen(E) City letter No. DRI/Acctt. AA-14/Pension-7199-01 dated 16-9-87. Neither pension made to the official nor reply received from the Director Pension Wapda, Lahore, latest reminder No. DRI/Acctt/Pension-5854-57 dated 7-6-88, has been written from Xen(E) City Divn. Rawalpindi.	Claim settled. PPO No. 7378/7814 sent to Xen Operation Divn. Rawalpindi on 17-10-87.
7.	Khadim Hussain S/o Bagh Ali.		4-9-87 (Died)	Complete documents has been submitted to Director Pension <i>vide</i> Xen Gujar Khan Div. letter No. 2586 dated 22-3-88, reply is still awaited.	Claim No. 8838 settled on 29-5-88 PPO in progress.
8.	Mr. Muhammad Akbar.	L/Driver	14-5-87 (Retired)	The pension claim No. 7882 is under correspondence with Director Insurance & Pension, Lahore <i>vide</i> Xen(E) S. Town Rawalpindi letter No. 6073-74/dated 8-6-88.	Claim No. 7882 closed for pre-dated option. Referred to C.E., AEB, Islamabad.
9.	Mr. Jamshed Khan.	ALM	28-10-87 (Retired)	The pension claim complete in all respect has been submitted to Director Insurance & Pension Lhr. <i>vide</i> Xen (E) S. Town letter No. 6218-20 dated 13-6-88 for issuance of PPO.	Claim received being finalized.
10.	Mr. Noor Ellahi.	S.S.A.	23-3-88 (Retired)	The pension claim No. 8797 has been submitted to Director Insurance & Pension, Wapda, Lahore <i>vide</i> Xen(E) S. Town, Rawalpindi letter No. 6488-89 dated 21-6-88.	Finalized on 18-6-88. PPO being issued.
11.	S. Altaf Shah.	LM-II	15-7-84 (Retired)	The official is not prepared to sign his pension documents neither he provided NIC and photographs. He wanted to be reinstated in service. He was retired on super-annuation on attaining the age of 60 years on 15-7-84 <i>vide</i> Xen S. Town letter No. 6310-11 dated 15-6-88.	Claim Not received.

[Illahi Bukhsh Soomro]

1	2	3	4	5	6
12.	Mr. Muhammad Ejaz.	ALM	12-11-87 (Died)	The official availed leave on medical grounds which is under sanction. The dependents of deceased have not produced the medical certificates due to which the earned leave could not be sanctioned.	Claim not received.
13.	Mr. Ghulam Qadir.		10-1-87 (Died)	The pension has not admissible to the dependents of deceased because he was unmarried and there are two dependents of the deceased as detailed below :— 1. Real sister 39 years age (married). 2. Bashir Ahmed real brother 41 years age. The official was serving in S. Town. Div .	—do—
14.	Mr. Niaz Ahmed, BPS-16.	LS-I	28-2-89 (Retired)	The G.M.(F) Napier Road, Lahore has been requested <i>vide</i> Xen S. Town Rawalpindi letter No. 6223-25 dated 13-6-88 for issuance of last salary slip to enabling to this office to proceed further for sanction of pension.	—do—
15.	Mr. Muhammad Akbar.	LM-I	30-6-88 (Retired)	The official has neither filled in pension papers so far nor he supplied the photos and NIC. He has been asked <i>vide</i> Xen S. Town letter No. 515 dated 21-6-88 for doing the needful but not reply has been received so far.	Claim not received.
16.	Mr. Muzzafar Khan.		13-2-88 (Retired)	The case is under process.	—
17.	Mr. Muhammad Fazil, Service No. JE-96 Chowkidar.	Chowki-dar	27-3-86 (Died)	His claim rejected by the Director Insurance & Pension Wapda, Lahore <i>vide</i> his No. 6353/closed/17097 due to reason that he did not opt within the stipulated period as per authority Notification.	—

ALLOCATION FOR TABLEEG-E-ISLAM

*36. **Qazi Abdul Latif:** Will the Minister for Finance and Economic Affairs be pleased to state :

(a) the total amount allocated for Tableeg-e-Islam during the years 1985—88 with year-wise and province-wise break up ;

(b) how much on the annual allocation was spent within the country and how much abroad, together with details of the mode, manner, and specific branch of Tableeg for which and the names of those persons through whom the amount was spent ; and

(c) whether it is a fact that the allocations in question are spent through the Education Ministry/Departments and not through the Religious Affairs Division and if so, reasons for the same ?

Sardar Wazir Ahmed Jomezai : (a) The total allocation for Tableeg-e-Islam during the said years under various national and international programmes comes to Rs. 173.900 million. The whole amount was released to the Dawah Academy, a constituent Unit of the International Islamic University charged with the promotion of Tableeg-e-Islam in Pakistan as well as abroad under Ordinance No. XXX of 1985. As the Academy has not yet set up its regional Centres it undertakes the Tableegh Programmes itself. Year-wise expenditure out of that allocation made so far is as under :—

1984-85	Rs. 0.215 million
1985-86	Rs. 29.615 million
1986-87	Rs. 35.874 million
1987-88	Rs. 34.182 million
	<hr/>
Total	Rs. 99.886 million
	<hr/>

(b) Details of allocation and expenditure given at (a) above relate to local/in country programmes organized by Dawah Academy. However, for International programmes Ministry of Religious Affairs extend financial assistance for construction/maintenance of Mosques/Islamic Centres abroad and distribution of the copies of Holy Quran and Islamic literature, amongst the individuals/organizations engaged in the propagation of Islam abroad. The total amount released during 1985—88 for the said purpose is Rs. 63,22,187/- with break up at annexure-I.

[Sardar Wazir Ahmed Jogezi]

(c) No. Only a part of the allocation for Tableeg purposes is spent by Ministry of Education through Dawah Academy which organize national and international programmes related to the Tableeg-e-Islam as stated in (a) above.

For such activities abroad Ministry of Religious Affairs and Minorities Affairs provides financial assistance as stated in (b).

ANNEX-I

EXPENDITURE INCURRED DURING THE YEAR 1985-86

S. No.	Name of Institution	Amount
1	2	3
1.	Construction of Belal Masjid, Madrassa Ghar-e-Sour, Huddersfield, U.K.	Rs. 10,000/-
2.	Young Muslim Association for Garissa Muslim Children Home in Nairobi, Kenya.	Rs. 10,000/-
3.	For completion of a Mosque being built in Mali by the Local Community, Maldives.	Rs. 50,000/-
4.	Annual contribution towards maintenance of Muslim Burial Ground of Brookwood Cemetery Working London.	Rs. 4,300/-
5.	Annual contribution towards the maintenance of Islamic Centre, New York, USA.	Rs. 10,000/-
6.	Annual contribution towards the construction/maintenance of Canberra Mosque, Australia.	Rs. 8,000/-
7.	Annual contribution towards construction of Islamic Centre, Rome.	Rs. 30,000/-
8.	Annual contribution towards maintenance of Washington Mosque, U.S.A.	Rs. 80,056/-
9.	Annual contribution towards salary of Imam and maintenance of 'Working Mosque, London.	Rs. 112,000/-
10.	Religious Institute in Ghana for construction of library and class rooms.	Rs. 10,000/-

1	2	3
11.	Islamic Congress in Moputo, Mozambique for publication of a Book in Portuguese Language on the life of Holy Prophet (PBUH).	Rs. 16,011/-
12.	Madrassah Rizvia Birganj, Kathmandu, Nepal for construction of Shops.	Rs. 10,000/-
13.	Mursiyya Arabic College, Weligama, Colombo, Sri Lanka for maintenance of College.	Rs. 5,000/-
14.	For completion of a Mosque in Sokoto, Lagos, Nigeria.	Rs. 22,341/-
15.	For construction of Jummah Mosque, Moroni, Commoro in Mauritius.	Rs. 22,598/-
16.	Financial aid to purchase a House adjacent to a Mosque and Islamic School in Accra, Ghana.	Rs. 25,000/-
17.	Financial assistance for a Project for the benefit of Tamil Speaking Muslim children in Sri Lanka and South Indian State of Tamil Nadu.	Rs. 25,000/-
18.	For construction of Jamia Masjid Aqsa in Pokhara, Kathmandu.	Rs. 25,000/-
19.	Contribution towards Islamic Cultural Centre in Kenya in the Eastern Province of Sri Lanka.	Rs. 10,000/-
20.	Contribution towards construction of Madrassa in Mafia Island.	Rs. 50,000/-
21.	Islamic Library Association, Bangladesh.	Rs. 50,000/-
22.	Pakistan Islamic and Cultural Association at Brussels.	Rs. 16,631/-
23.	For establishment of Islamic Centre and purchase of a small building in Ostend by the Pakistan Islamic Association, Brussels.	Rs. 16,631/-

1	2	3
24.	Payment of transportation and documentation charges to local agency for despatch of marble slabs for Panama Mosque, Mexico.	Rs. 12,465/-
25.	Construction of a Mosque in Tenafly, New Jersey, U.S.A.	Rs. 16,620/-
26.	Islamic Centre, New York.	Rs. 415,500/-
27.	For completion of a Mosque in Argentina.	Rs. 15,000/-
28.	Pakistani Mosque, Frankfurt and Mosque in Dusseldorf through Embassy of Pakistan, Germany.	Rs. 100,000/-
29.	Jamia Masjid Islamic Centre Corporation, West Midland, England.	Rs. 46,000/-
30.	Remittance to Embassy of Pakistan, London to pay freight charges on account of despatch of ceiling fans to Embassy of Pakistan, Ghana.	Rs. 39,888/-
	Total :	Rs. 12,64,041/-
31.	Purchase of Holy Quran/Islamic books and other Misc.Expenditure.	Rs. 1,90,883/-
	Grand Total :	Rs. 14,54,924/-

BUDGET PROVISION : Rs. 24,35,000/-

FINANCIAL ASSISTANCE TO ISLAMIC CENTRES
MOSQUES ABROAD 1986-87.

S. No.	Islamic Centres/Mosques.	Amount
1	2	3
1.	Pakistan Annual Contribution towards maintenance of Muslim Burial Ground of Brookwood Cemetery, Working, London.	Rs. 4,300/-

1	2	3
2.	Pakistan Annual Contribution towards Canberra Mosque, Australia.	Rs. 8,000/-
3.	Pakistan Annual Contribution towards Islamic Centre, New York, USA.	Rs. 10,000/-
4.	Pakistan Annual Contribution towards Islamic Centre, Rome.	Rs. 30,000/-
5.	Pakistan Annual Contribution towards Washington Mosque, USA.	Rs. 86,406/-
6.	Pakistan Annual Contribution towards the salary of Imam and maintenance of Working Mosque, London.	Rs. 1,12,000/-
7.	Financial assistance for renovation of Dewata-gaha Mosque at Colombo, Sri Lanka.	Rs. 50,000/-
8.	Financial assistance towards construction of International Comprehensive Arabic School, Abuja, Nigeria.	Rs. 25,000/-
9.	Financial assistance for construction of Darul Uloom Qadriah Mushahul Muslimin Ali Patti, Dast Nepal, Kathmandu.	Rs. 12,000/-
10.	Financial assistance towards preparation of Float by Pakistanis Muslim World Day Parade, New York, USA.	Rs. 42,578/-
11.	Financial assistance for an appropriate place for a Mosque, Mexico.	Rs. 25,000/-
12.	Financial assistance for Islamic Centre and Community Hall, Barazil.	Rs. 17,281.20
13.	Financial assistance for purchase of cooling fans for donation to Mosques in Accra, Ghana.	Rs. 25,000/-

1	2	3
14.	Financial assistance to a local Islamic Organization called Islamic Congress in Maputo, Mozambique.	Rs. 16,011.20
15.	Financial assistance for Masjid Jamek Pekan Sentul Kaula Lumpur, Malaysia.	Rs. 17,281/-
16.	Financial assistance for the Islamic Cultural Centre, Harare, Zimbabwe.	Rs. 4,32,030/-
17.	Financial assistance to Bakwata, a Muslim Association of Tanzania.	Rs. 17,281/-
18.	Financial assistance for Solidarito Musulmane a non-profit Charitable Association in Paris, France.	Rs. 34,662/-
19.	Financial assistance for Muslim Writer's Workshop, Dares Salaam, Tanzania.	Rs. 17,281/-
20.	Financial assistance to the Al-Ameen Islamic Cultural Development Association of Mannar, Sri Lanka.	Rs. 17,281/-
21.	Financial assistance for Ziaul Islam High School, Nepal Gang, Nepal.	Rs. 17,454/-
22.	Financial assistance for the establishment of the Islamic University in Niger.	Rs. 87,271/-
23.	Financial assistance for completion of a Mosque in Argentina.	Rs. 35,000/-
Total :		Rs. 11,39,117.40
24.	Purchase of Holy Quran/Islamic Books and other Misc. expenditure :	Rs. 12,95,882.60
Grand Total :		Rs. 24,35,000/-

SUPPLEMENTARY GRANT : Rs. 2,00,000/-
EXPENDITURE INCURRED DURING THE YEAR 1987-88.

S. No.	Name of Institution	Amount
1.	Renovation of Old Mosque, Accra, Ghana.	Rs. 17,554/-
2.	"The Rock of Islam" A prominent Association at Accra, Ghana.	Rs. 17,554/-
3.	Thailand Foundation of Islamic Centre, Bangkok, Thailand.	Rs. 175,548/-
4.	Annual contribution towards Canberra Mosque, Australia.	Rs. 8,000/-
5.	Annual contribution towards Washington Mosque, USA.	Rs. 88,528/-
6.	Annual contribution towards salary of Imam and maintenance of Working Mosque, London.	Rs. 112,000/-
7.	Annual contribution towards Islamic Centre, Rome.	Rs. 30,000/-
8.	Annual contribution towards Islamic Centre, New York.	Rs. 10,000/-
9.	Financial assistance towards Muslim School at Mankessim, Ghana.	Rs. 100,000/-
10.	Mosque at the Central Place at Takoradi, Ghana.	Rs. 25,000/-
11.	Nurul Huda Institute, Indonesia.	Rs. 50,000/-
12.	Darul Uloom Faizun Nabi, Jamia Masjid, Nepal Gung, Nepal.	Rs. 50,000/-
13.	Purchase of carpets for Malmo Masjid, Sweden.	Rs. 200,000/-
14.	Construction of Mosque at Embassy of Pakistan, New Delhi (India).	Rs. 1,400,000/-

1	2	3
15.	Mosque in Gram Patahi Thana Bargnia, Distt. Setha Murhi (India).	Rs. 17,906/-
16.	Purchase of carpets for Islamic Centre, Colombo, Sri Lanka.	Rs. 20,000/-
Total :		Rs. 23,22,090/-
17.	Purchase of Holy Quran/Islamic Books and other Mics. expenditure.	Rs. 1,10,173/-
Grand Total :		Rs. 24,32,263/-

RECRUITMENT IN MUJAHID FORCE

*183. **Maulana Kausar Niazi :** Will the Minister for Defence be pleased to refer to question No. 407 asked at a sitting of the National Assembly held on 4th December 1986, and state :—

- (a) full particulars of 11 persons recruited from village Cheeda, Tehsil Narowal in Mujahid Force ;
- (b) the name of the doctor who medically examined the said persons and the names of the persons on whose verification they were recruited ; and the date and place of their recruitment ; and
- (c) the reasons for issuing letter dated 28th July 1987, under the signatures of Maj. Khurshid Alam addressed to one Shafqat Rasool S/o Muhammad Tufail, resident of Village Cheeda Kalan, Tehsil Narowal.

MINISTER FOR DEFENCE :

The above question is an amplification of Question No. 407 which was answered in the meeting of the National Assembly on 4th December, 1986. The former honourable Senator had asked for detailed information in respect of 11 persons recruited in Mujahid Force from village Cheeda, Tehsil Narowal. The specific

information which was not readily available has since been collected from the agency concerned, and is appended below :—

(a) Particulars of 11 persons enrolled in Mujahid Force from village Cheeda are as under :—

- (1) M-116100 Mujahid Muhammad Salim S/o Inayat Khan.
- (2) M-116102 Mujahid Shafqat Rasool S/o Muhammad Tufail.
- (3) M-116103 Mujahid Fiaz Ellahi S/o Din Muhammad.
- (4) M-116104 Mujahid Muhammad Boota S/o Ghulam Nabi.
- (5) M-116105 Mujahid Habib Ullah S/o Ahmed Ali.
- (6) M-116106 Mujahid Muhammad Hanif S/o Muhammad Siddique.
- (7) M-116108 Mujahid Muhammad Hussain S/o Din Muhammad.
- (8) M-116109 Mujahid Manzoor Hussain S/o Muhammad Ismail.
- (9) M-116110 Mujahid Abdul Razzaq S/o Muhammad Sharif.
- (10) M-116111 Mujahid Farooq Ahmed S/o Allah Rakha.
- (11) M-116112 Mujahid Abaid Ullah S/o Taj Din.

- (b)
- | | |
|--|---|
| (i) Name of doctor :— | Capt. Khalid Hussain, AMC. |
| (ii) Name of person on whose verification recruitment was carried out :— | Not available on the enrolment forms of Mujahids. |
| (iii) Date of Enrolment :— | 20th October, 1985. |
| (iv) Place of Enrolment :— | Qila Soba Singh. |

(c) Reasons for issuance of letter dated 28th July 1987 :—

Formation Headquarters concerned have ordered a formal court of inquiry with a view to finding out details of any irregularities committed during enrolment, including the reasons for issuing this letter. Finalization of the inquiry has been delayed due to non-availability of certain witnesses, as a few of them had already been posted out of the formation. However, suitable action will be taken against those found responsible for any irregularities. In the meantime, all the *mujahids* mentioned at (a) above, have been discharged from service, as they were enrolled without their consent.

PROMISED REPLY TO STARRED QUESTION NO. 12 ASKED ON 7-1-88.

Performance Report of the Ministry of Science & Technology for Fiscal year 1986-87, being bulky has been placed in the Senate Library.

PROMISED REPLY TO PART (C) OF STARRED QUESTION NO. 75 ASKED ON 13-8-88

Performance Report of the Ministry of Science and Technology and its organizations for the year 1985-86 and 1986-87 as required in reply to starred question No. 75 asked on 13-8-88, being bulky has been placed in the Senate Library.

LEAVE OF ABSENCE

جناب قائم مقام چیئرمین : اب رخصت کی درخواستیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ صاحبزادہ سلطان عبدالمجید صاحب نے ناسازگاری بلج کی بنا پر ۱۵ اگست کے لئے رخصت کی درخواست کی ہے، کیا ایوان ان کی رخصت منظور کرتا ہے۔

(رخصت منظور کی گئی)

جناب قائم مقام چیئرمین : ڈاکٹر بشارت الہی صاحب نے اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر ایوان سے ۱۳ اگست تا ۱۵ اگست ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے، کیا ایوان ان کی رخصت منظور کرتا ہے۔

(رخصت منظور کی گئی)

جناب قائم مقام چیئرمین : سید اصغر علی شاہ نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر ایوان سے ۳۱ جولائی سے تا اختتام حالیہ اجلاس رخصت کی درخواست کی ہے، کیا ایوان ان کی رخصت منظور کرتا ہے۔

(رخصت منظور کی گئی)

جناب قائم مقام چیئرمین : سید مظہر علی نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر ایوان سے ۱۷ جولائی تا ۱۵ اگست تک رخصت کی درخواست کی ہے، کیا ایوان ان کی رخصت منظور کرتا ہے۔
(رخصت منظور کی گئی)

جناب قائم مقام چیئرمین : سید عباس شاہ نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر ایوان سے ۱۸ اگست کے لئے رخصت کی درخواست کی ہے، کیا ایوان ان کی رخصت منظور کرتا ہے۔
(رخصت منظور کی گئی)

OBITUARY

جناب قائم مقام چیئرمین : اب جسٹس منسٹر صاحب قرارداد پیش کریں گے ، وسیم سجاد صاحب ۔

Mr. Wasim Sajjad : Mr. Chairman, this House is deeply' grieved and stunned at the sudden and unexpected death of Gen. Muhammad Zia-ul-Haq, President of Pakistan, in an air crash yesterday afternoon. His death at this crucial juncture creates a vacuum in the national life as he was a crucial link between the past and the future. The late President Gen. Muhammad Zia-ul-Haq had a long and distinguished career in the Pakistan Army spanning nearly 44 years. As an Army Officer he saw action on the battle front and rose to the highest rank and honour that his country and career could offer *i.e.* the position of the Chief of Army Staff. Later in September 1978 he assumed the office of the President of Pakistan. This high office he held for nearly 11 years until his unfortunate death yesterday afternoon. President Zia-ul-Haq was a recognised and respected leader of the Muslim world. His advice was sought by Heads of States all over the world. What he said was listened to with respect and reverence by Heads of States and Heads of Governments all over the world. President Zia-ul-Haq pursued a successful foreign policy which enhanced the image of Pakistan abroad and won Pakistan a place of honour and prestige particularly in the Muslim world. He had deeply committed himself to the Afghan cause, it is sad he did not live to see it fully accomplished.

[Mr. Wasim Sajjad]

The President took over the country at a very critical juncture and steered Pakistan through many serious crisis. He was himself a true Muslim and absolutely dedicated to the cause of Islam inspired by the deep religious faith, he introduced Islamic order in Pakistan. As a national leader he had the rare combination of humility and great determination to pursue the cause. He was a noble soul. He was God fearing and deeply religious. His public and private life was Islam. There are thousands of widows and orphans who received his personal attention and for whom he was a ray of hope, solace and comfort. There are millions of people in Pakistan and abroad who will feel a sense of personal loss at the passing away of the late President.

The House fully participates in the grief of the nation. This House extends its sincere condolences to the bereaved family and prays that the Almighty rest the late Gen. Muhammad Zia-ul-Haq in peace and the family may have courage to bear this irreparable loss. This House also expresses its grief and sorrow at the loss of other valuable lives in the same aircraft which included Gen. Akhtar Abdul Rehman, Gen. Afzal and other officers and staff of the Armed Forces. This House is also grieved at the passing away of the distinguished diplomat Mr. Arnold Raphel, U.S. Ambassador in Pakistan. This House extends its sympathy to the families of all the persons who died in this crash. This House also shares the grief of the people of the United States of America and the Government of United States on the sad demise of Mr. Arnold Raphel and Brig. General Wasoom also of the United States Army at the Embassy in Pakistan. Thank you.

جناب قائم مقام چیئرمین : آپ قرارداد کے حق میں بولنا چاہئیں گے۔

جناب بنگلزی صاحب -

میر حسین بخش بنگلزی - جناب چیئرمین ! وقت اور تاریخ نے

یہ ثابت کیا ہے کہ انسان اور حادثات کا ہمیشہ چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ انسان حادثات کو face کرنے کے لئے پیدا ہوا ہے اور حادثات انسان کا کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑتے مگر کل کے حادثے نے پاکستانی قوم کو جس غم میں مبتلا کیا ہے اس کا الفاظ میں بیان کرنا میرے لئے بہت مشکل ہے۔ کل کے حادثے میں پاکستان

کا ایک اولولغزم صدر، پاکستان کا ایک سچا مسلمان، پاکستان کا وہ تاریخی ہیرو جس پر قوم ہمیشہ فخر کرتی رہی ہے اور فخر کرتی رہے گی اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں۔ زندہ قومیں ہمیشہ حادثات کو face کرنے کے لئے تیار رہتی ہیں اور میں انتہائی اعتماد کے ساتھ اس بات کا، اس امید کا اظہار کرتا ہوں کہ پاکستانی قوم کل کے حادثے کو انتہائی بہادری اور عزم کے ساتھ برداشت کرنے گی۔ کل کے اس ناگہانی حادثے کے بعد میں افواج پاکستان کے سربراہوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہوں نے آئین کو smooth انداز میں آگے چلنے دیا اور آئین کے مطابق سینٹ کے چیئرمین نے پاکستان کے صدر کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ کل کا حادثہ ایک ایسے وقت رونما ہوا جس کے نتیجے میں قوم کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کے سربراہوں کا یہ تدبیر ہے کہ انہوں نے ملک کے اندر آئینی حکمرانی کو prefer کیا۔

جناب والا! یہ بھی پاکستانی قوم کی خوش قسمتی ہے کہ کل کے حادثے کے بعد اس ملک کی زمام حکومت کو جس شخص نے اپنے کندھوں پر لے لیا ہے وہ سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان صاحب ہیں۔ غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ پچھلے تین سالوں سے ہمیں کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہم نے ان کی قیادت میں بہت کچھ سیکھا ہے اور مجھے امید ہے کہ غلام اسحاق خان جیسے high intellectual لحاظ سے انتہائی

[Mir Hussain Bukhsh Bangulzai]

level کا thinker ، انتظامی لحاظ سے ایک بہترین منتظم ، انشاء اللہ پاکستان کی قوم اور پاکستانی عوام کو مایوس نہیں ہونے دے گا۔ مجھے امید ہے کہ غلام اسحاق خان کی قیادت میں، اس کی صدارت میں پاکستان اپنی داخلی اور خارجی منزل کی طرف اسی طریقے سے گامزن ہوگا جس کی مثال جنرل محمد ضیاء الحق کے پچھلے گیارہ سالہ دور میں پاکستانی قوم نے قائم کی ہے۔

جناب والا! کل کے حادثے میں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں میں ان کو آپ کی وساطت سے قومی ہیرو کا درجہ دیتا ہوں۔ وہ ہمارے قومی ہیرو ہیں جن کا آج ہم ماتم کرتے ہیں۔ وہ اس لئے قومی ہیرو ہیں کہ وہ اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے اور اس حادثے کا شکار ہو گئے۔ جناب والا! یقینی بات ہے کہ کل کے اس حادثے کے بعد ملک کے اندر ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے اس خلا کو پُر کرنے کے لئے اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اس خلا کو پُر کرنے کے لئے صرف اور صرف ایک پاکستانی کی حیثیت سے سوچنے کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا جناب چیئرمین! میں آپ کی وساطت سے پوری پاکستانی قوم سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ آئیے آج مل کر اس عزم کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم جس ملک کے باشندے ہیں اور اس ملک کا نام پاکستان ہے اور اس ملک کو ہم تائیمت قائم و دائم رکھیں گے اور پاکستان کے دشمنوں کو میں اس ملک

کے اعلیٰ ترین فوزم سے خبردار کرتا ہوں کہ اگر اس سرزمین پر آخری کلمہ گو مسلمان بھی زندہ رہا تو اس ملک کا نام پاکستان رہے گا اور یہ اسلام کا قلعہ رہے گا۔ جناب والا! مجھے امید ہے کہ قوم کو کل جو یہ ناگہانی حادثہ پیش آیا ہے۔ انتہائی جرأت کے ساتھ قوم اس قومی المیہ کا مقابلہ کرے گی۔ جناب والا! جہاں تک غلام اسحاق خان صاحب کی قیادت کا تعلق ہے میں آپ کی وساطت سے جناب صدر گرامی کو بھرپور یقین دلاتا ہوں ہوں کہ اس ہاؤس کا، اس قوم کا اس کو پورا پورا تعاون حاصل رہے گا اور ان کو اپنے قومی فریضے کو ادا کرنے میں اور اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآء ہونے میں کسی قسم کا تاامل نہیں ہونا چاہیے۔

میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے لوگ کل کے اس حادثے میں خالق حقیقی سے جا ملے ہیں خدا ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے خدا پاکستان کی قوم کو ہمت دے کہ وہ اس سانحہ عظیم کو برداشت کرے اور آنے والے حالات کا مقابلہ کرے۔ جناب والا! میں آپ کی وساطت سے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کا ہاتھ وقت کی نبض پر رہنا چاہیے کہ آج پاکستان داخلی اور خارجی لحاظ سے جن حالات کا مقابلہ کر رہا ہے ان کا یہ تقاضا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں حالات کی سٹیڈی کر کے ملک کے اندر امن و امان قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔

[Mir Hussain Bukhsh Bangulzai]

اور موجودہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں تاکہ موجودہ حکومت اپنے اس عزم میں کامیاب ہو سکے کہ اس ملک کے اندر الیکشن ہوں اور آئینی تقاضے پورے ہوں، ان الفاظ کے ساتھ میں ان تمام روحوں کے لئے دست بدعا ہوں کہ خدا انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے اور پاکستانی قوم کو یہ سانحہ برداشت کرنے کی ہمت دے۔ شکر یہ !

Mr. Acting Chairman : Mr. Javed Jabbar.

Mr. Javed Jabbar : بسم اللہ الرحمن الرحیم ۞

Mr. Chairman, the event — the tragic event — yesterday afternoon has not only shocked every one but has also disorientated us because with one swift and unexpected stroke of fate or some other form of action a completely new situation has been created. I must first place on record my heart-felt condolences and sympathies for the families of those thirty individuals who perished in yesterday's crash (I will be stand corrected by the actual figure). To my mind each of those lives on that aircraft was as precious as the other because each of those families who has suffered that loss only they can estimate the value that those human beings had to their lives and each of them deserved our fullest sympathy and support. May Allah in His infinite wisdom forgive the various acts that any one of them may have committed and find a place for them in his infinite abode.

Mr. Chairman, at a moment such as this one must also place on record that with reference to the Head of State of Pakistan who most unfortunately lost his life in that terrible accident yesterday, I opposed most of the policies with which he was identified. While taking part with strong reservations in the elections of February/March, 1985, on a number of occasions, I made evident my difference of opinion with that gentleman. In his death I cannot overnight change my opinion about his actions. Those I will continue to hold and at the same time while seeking Allah's guidance for His mercy upon the departed soul, one as a citizen of Pakistan, as an elected representative of the people, must identify certain aspects of the situation that have emerged in the last few hours.

No. 1, obviously is the question whether this terrible deed was an accident or was it a sabotage, and if it was a sabotage, as it so appears to be (a former Commander of the Air Force is already gone on record as saying that the aircraft is possibly one of the safest flying machines) then it raises the question that in times such as these how could any one with a devious purpose gain access to a Presidential aircraft or if not having gained access to the Presidential aircraft how could such an act be performed at a time when the major part of the country's resources are devoted to defence, to internal security, to administration. This is a question that must be urgently addressed because the event is a turning point. It comes at a time when the country was heading for a political crisis of perhaps unprecedentd magnitude. Except for the dark days of 1971, one cannot recall a situation in Pakistan's history where the respective positions were crystallizing and becoming polarised to the extent that they were appearing to be. Geo-politically as well outside Pakistan we are faced with a situation where within the space of 24 hours, two of our immediate neighbours to the east and to the north-west went on record with some of the most categorical warnings of retributive action against Pakistan.

So, this in an act that is a turning point but I beg to disagree with the words used to the effect that by that tragic death of the Head of State yesterday there has been created a vacuum. I disagree Mr. Chairman. There can be no vacuum. In a country where people live and breathe, where over 100 million people exist no single individual is indispensable. Mr. Clamenshow, a former late Prime Minister of France once said, "the grave-yards are full of indispensable people". In all humility as Muslims we must remember that to talk of a vacuum is to accept our inferiority, our alleged inferiority or inability to master a crisis. I think, we have it within us — we have the potential, we have the sincerity, we have the determination to confront any situation and to evolve an effective solution.

Mr. Chairman, I believe that it is vital to observe constitutional continuity and one welcome step has been the assumption of office of the President by the Chairman of the Senate. But having said that I must also express my apprehensions at a possible vagueness or nebulousness that might emerge in terms of the distinctions drawn between the status of the Cabinet and the status of a new entity called the 'Emergency Council'. Nowhere in the Constitution is there a specific provision for creation of an Emergency Council. It can be said that under abnormal circumstances the Head of State has the discretionary right to create an administrative arrangement. This, however, Mr. Chairman, raises the question as to the status, the continuity of a Cabinet that was to begin with a Caretaker Cabinet. A Cabinet, as it well known all over the world, owes its loyalty and its function to the Head of the Cabinet. The moment the Head of a Cabinet changes, the Cabinet resigns. If the new Head of State or Head of Government wishes to induct the same individuals into his Cabinet, you

[Mr. Javed Jabbar]

have to go through the motions of being sworn in once again just as the present Head of State was duly sworn in to his new office. I believe, much as it may seem inappropriate or unwise, I do not think that the imposition or the declaration of a state of emergency was necessary. It was with great difficulty after twenty years that this nation rid itself of this unnatural state of law. We had re-asserted our democratic rights. For the first time in over twenty years we had gained back our fundamental rights. Therefore, I believe that there was no need for the proclamation of an emergency. We must have faith in the people of Pakistan, and in the systems of Pakistan to withstand this kind of threat. I would, therefore, be most enlightened by any opinion tendered as to how an Emergency Council can function while a Caretaker Cabinet that is supposed to be dissolved still continues to hold office.

I welcome the tone and the content of the address by the new President of the country. I think he has most graciously and carefully identified the steps that need to be taken but Mr. Chairman, I believed that it is vital at this juncture to form a government of national unity. I know that it cannot be done within 12 or 24 hours but I do sincerely hope that the new Head of State will consider the need to bring together the elements from outside parliament from the political parties that stayed away from the present elections so that a genuine government of national unity is able to achieve the holding of elections on the 16th of November but one point needs to be emphasized and this was missing from the Address last night which is the imperative need to hold party based free and fair elections at the earliest time. This is the demand of the people of Pakistan and if we are to use this turning point for the betterment of this country to overcome the tragedy that has affected us that we must reiterate our commitment to a free fair party based elections on the 16th of November. Thank you Mr. Chairman.

Mr. Acting Chairman : Thank you.

Lt. Gen. (Retd.) Saeed Qadir : Point of order Mr. Chairman, Mr. Javed Jabbar has just stated that the President has been sworn in last night. To the best of my knowledge the President has not been sworn in, I may be corrected by the Justice Minister if that be so.

Mr. Acting Chairman : The honourable Justice Minister.

Mr. Wasim Sajjad : Under the Constitution Sir, the oath originally taken by the Chairman of the Senate includes an oath that whenever he is called upon to exercise the functions of the President he shall do so according to the Constitution and he repeats the oath also as President in the original oath. Therefore, Sir, the position is that whenever a contingency like the present one arises the Chairman automatically assumes the functions of the President and that is what has happened last evening.

Mr. Acting Chairman : I think now it is clear. Dr. Mahbubul Haq.

Dr. Mahbubul Haq : I rise today, Mr. Chairman, to pay homage to a departed leader. Yesterday, in a midair explosion, we lost a leader who had given us stability for the last 11 years; who had given us traditions of decency and grace; who stood on principles in Afghanistan and won; who raised our prestige in the international world; who committed himself in his life to the advancement of Islamic values and Islamic ethics in this country and who cared for the common people for he really belonged to them and he felt comfortable with them.

Two months ago, Mr. Chairman, when late President Zia gave me a mandate to run the economic management of the country, I went to him and asked him what should be the guiding principles for the budget and he told me that whatever else you may do to strengthen the economy and however limited the resources may be, can you do something to wipe the tears of those poor people, those millions of deprived and by-passed people, those widows and those orphans, for whom our compassion should be unlimited even may our resources are limited. I tried inadequately to follow the mandate of my leader.

I have been associated for last six years very closely with President Zia and during these six years, Mr. Chairman, there is only one thing that guided him and that was national interest. People could have differed with his perception of what national interest is but I have seen him work tirelessly from morning to the nights and several nights when he did not sleep. The only guiding principle being how we can advance development and justice and sense of Islamic values in Pakistan and how we can raise its prestige internationally. I believe, Mr. Chairman, he was more democratic than many democratic leaders because he had infinite patience to listen to a dissenting point of view; and what is democracy, if it isn't an ability to tolerate and gracefully accept opposition and dissent. Let me say to those who had differences with him in his life time and those in opposition that he was gracious to them in his life time, be gracious to him in his death.

I believe, Mr. Chairman, he has left us an unfinished agenda. His agenda was to make a constitutional transition towards an elected Assembly, towards revival of democracy, and it should be our first task to ensure continuity, to ensure that the unfinished agenda is fulfilled. We are the inheritors of that unfinished agenda and, whatever else we may do in the next few months, let us ensure that there is a smooth transition towards elections, that there is peace within the country, that there is unity and as people from all over the world descend on Islamabad to pay homage to our departed leader, let us also show them that this nation can show unparalleled courage in the midst of its unprecedented grief.

[Mr. Mahbudul Haq]

I believe, Mr. Chairman, President Zia lived and died for Pakistan. History will honour him, his people will hold him in affection and millions of poor people all over Pakistan, the widows and the orphans will have their hands turned up in prayers for the departed soul. We all mourn him today, God bless his soul. Thank you Mr. Chairman.

Mr. Acting Chairman : Thank you. Interior Minister on a point of order.

ملک نسیم احمد آہیر : جناب چیئرمین! گزارش یہ ہے کہ اُن شہداء کا جنازہ جوکل کے اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں، اتر پورٹ پہ ساڑھے گیارہ بجے ہوگا۔ میری درخواست ہے کہ ہاؤس کے اکثر ارکان اس میں شامل ہونا چاہیں گے اس لئے اگر آپ اجلاس کو ایک گھنٹے کے لئے ملتوی کر دیں تو دوبارہ ساڑھے بارہ بجے یہاں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر ہم ان کے جنازے میں شریک ہو جائیں تو یہ بھی ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔

جناب وسیم سجاد : میرے خیال میں یہ مناسب ہوگا اور ہاؤس کو آپ تھوڑی دیر کے لئے ملتوی کر دیں تاکہ جس نے جنازے میں شرکت کرنی ہے وہ کرے۔ ساڑھے بارہ تک ملتوی کر دیں.....

جناب قائم مقام چیئرمین : جناب سعید قادر صاحب۔

Lt. Gen. (Retd.) Saeed Qadir : Mr. Chairman, I also like to give the House some information on this. The bodies are not arriving till 1.30 p.m. I have just been to the airport, some bodies were due to arrive at 9.30 and I went there at 9.30. I was told at the PAF that the bodies are not expected before 1.30 p.m. So their prayers will be held later

but we do not know exactly at what time. Now, if the Minister of Interior has got information that the aircraft is arriving now then it is a different matter but I would recommend that we should postpone it for a longer duration because we all have to get there for attending the prayers.

ملک نسیم احمد آہیر : میں جناب جنرل سعید قادر صاحب کی اطلاع کے لئے عرض کرتا ہوں کہ ابھی یہاں آنے سے پہلے میں ایک میٹنگ میں تھا جس میں کور کمانڈر پنڈی اور جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی کے ڈائریکٹر امتیاز وٹراچھ موجود تھے ، یہ انفارمیشن انہوں نے مجھے دی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ساڑھے دس بجے جنازہ ہوگا، میں نے انہیں کہا کہ ہم اس وقت نہیں پہنچ سکیں گے آپ اسے ایک گھنٹہ ملتوی کر دیجئے۔

جناب وسیم سجاد : میرے خیال میں اس طرح کر لیتے ہیں کہ فاتحہ کر کے prorogue کر دیتے ہیں۔ سینیس آف دی ہاؤس جناب کے سامنے آہی چکا ہے۔ I think that is better.

Mr. Mehmood A. Haroon : I have the information that the aircraft of Generals and Officers is arriving at the Airport at 12. 'O' clock.

جناب وسیم سجاد : میرا خیال ہے فاتحہ کر کے prorogue کر دیتے ہیں۔

جناب قائم مقام چیئرمین : ساڑھے گیارہ بجے تک چلا لیتے ہیں۔

جناب وسیم سجاد : ساڑھے گیارہ بجے تک کر لیں۔

جناب قائم مقام چیئرمین : قاضی لطیف صاحب -

قاضی عبداللطیف : میری گزارش ہوگی کہ سب حضرات ان کو ایصالِ ثواب کے لئے تین مرتبہ پہلے درود مبارک اور درمیان میں تین مرتبہ الحمد شریف اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر ان کی روح کو بخشیں اور اس کے بعد دعا کریں۔
(ایصالِ ثواب کے لئے فاتحہ پڑھی گئی اور قاضی عبداللطیف نے دعائے مغفرت کی)

جناب قائم مقام چیئرمین : وسیم سجاد صاحب ، ایوان کو ساڑھے گیارہ بجے تک چلا لیتے ہیں۔

جناب وسیم سجاد : ساڑھے گیارہ بجے prorogue کر دیں۔ ابھی جو بولنا چاہیں تو دو تین مختصر تقریریں ہو جائیں۔

جناب قائم مقام چیئرمین : ایوان کی رائے کیا ہے۔ ساڑھے گیارہ بجے ٹھیک ہے۔

جناب محمد محسن صدیقی : جناب چیئرمین ! میری گزارش یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر وزیر داخلہ صاحب مزید اطلاع حاصل کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا کیوں کہ اس ایوان میں ہم چاہیں گے کہ ہم سب کو ایک ایسا موقع ملے کہ ہم پوری طرح اپنی عقیدت کا اظہار کر سکیں۔

جناب قائم مقام چیئرمین : ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں آپ مختصر تقریریں کیجئے۔

جناب محمد حسن صدیقی : جناب چیئرمین ! میری گزارش ہے
کہ مجھے موقع دیا جائے۔

Mr. Acting Chairman : Mr. Hasan A. Shaikh.

Mr. Hasan A. Shaikh : Mr. Chairman, in these tragic days particularly when Pakistan has suffered such a great tragedy in which 30 persons or almost 30 persons have been killed. There could be no controversy, although earlier I did not see eye to eye with the policies of the President. I must say very frankly just as Mr. Javed Jabbar has said, he can not forget the controversial nature of the two individuals. I will try to forget everything Sir, in the hope that Pakistan now turns a leaf and goes into a democratic Institution. The very step that the Chairman of this Senate has taken over in accordance with the provisions of the Constitution, I think, it is a grand opportunity to the Chairman to usher into a new era of democracy. It is in democracy that future of Pakistan is really speaking to be made sure, Pakistan can be made powerful, mighty nation of the world only if we follow democratic institution, democratic traditions in accordance with Quaid-i-Azam precepts. We go ahead democratically in accordance with the public opinion in respect of every matter before this nation. The Law Minister said in 1977 the late President took over the Government of Pakistan. I only wish nobody hereafter thinks of taking over the Government of Pakistan. The Constitution has given us a proforma under which government changes from one individual to another. We have passed through several crisis. The Quaid-e-Azam died in 1948, Liaqat Ali Khan died in 1951 and we still survive as a viable nation to the surprise of our ill-wishing neighbours and I have no doubt about it that we shall survive all the tests of time. Only there should be no interference from agencies outside those that are permitted under the Constitution then alone Pakistan can be mighty, great and powerful. Thank you Sir.

Mr. Acting Chairman : Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui.

جناب محمد حسن صدیقی : جناب چیئرمین ! بڑے بوجھل ذہن،
بڑے آزرده دل کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا
ہوں تاکہ اس سانحہ عظیم پر اپنے جذبات کا اظہار کروں۔ مجھے
اپنی کم مائیگی کا احساس ہے۔ جب جذبات کی فراوانی ہوتی ہے
تو یقیناً الفاظ کی کمی ہوتی ہے اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ

[Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui]

میرے الفاظ میرا ساتھ ہرگز نہیں دے سکتے کہ وہ جذبات جو میرے دل میں ہیں ان کی پوری طرح سے ترجمانی کر سکوں۔ جناب والا! یہ ایسا سانحہ عظیم ہے جس نے پاکستان کے عوام اور ملک کو ہلا دیا ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہتا اور نہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص واحد اس ملک میں indispensable ہے مگر اس ۴۱ سال کی زندگی میں جو تجربہ ہمیں حاصل ہوا ہے اس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جو ہم سے رخصت ہوتا ہے اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان سے بھی ہمیں وہی شکوہ اور گلہ رہتا ہے۔ جناب فیاض الحق مرحوم کی ذات میں دو شخصیتیں تھیں ایک وہ بہت بڑے انسان تھے جن کے دل میں عوام کی محبت تھی، غریبوں کا خیال تھا اور پاکستانی قوم سے انہیں بے انتہا محبت تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس پر ان کا نہ کوئی دشمن معترض ہو سکتا ہے نہ کوئی دوت، دوسری ان کی شخصیت ایک سیاسی رہنما اور سربراہ مملکت کی تھی، اس میں لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، مگر یہ موقع اختلافات کو ہوا دینے کا نہیں ہے، یہ موقع ہے کہ ہم اختلافات کو بھول جائیں، ہم انہیں فراموش کر دیں اور ہم یہ سوچیں کہ موت اور زندگی ایسا فلسفہ ہے جس کو ایک شعر میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ

زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب
موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا

جناب چیرمین ! ضیاء الحق صاحب مرحوم کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ اتفاق کرنے والے ہوں یا اختلاف کرنے والے ، میں ان کی خدمت میں صرف ایک شعر عرض کروں گا۔
 عمر با در کعبہ و بت خانہ ہی نالہ حیات
 تاز بزم عشق یک دانائے راز آید برون

مجھے یاد ہے وہ دور ، وہ تاریکی کا دور ، وہ اندھیرا ، جس میں ضیاء الحق صاحب نے حکومت کی باگ ڈور سنبھالی تھی، مجھے یاد ہے وہ دور جب لوگوں کے اوپر ظلم و تشدد ہوا کرتا تھا، مجھے یاد ہے وہ دور جب لوگ دلائی کیمپ میں رکھے جاتے تھے، مجھے یاد ہے وہ دور جب کسی باعزت آدمی کی عزت محفوظ نہیں تھی، کسی مال والے کا مال محفوظ نہیں تھا، کسی کی جان محفوظ نہیں تھی، ان حالات میں برسراقتدار آنے کے بعد انہوں نے شرافت کا رویہ اختیار کیا، ایک ایسی سیاست کی بنیاد ڈالی جو اخلاص پر مبنی تھی ، جو خوش اخلاقی کے اوپر مبنی تھی ، جس کے نتیجے میں ان سے لوگوں نے اختلاف کیا مگر انہوں نے کسی اپنے مخالف کے لیے کبھی کوئی سخت جملہ استعمال نہیں کیا یہ ان کی بڑی خوبی تھی ، یہ ان کی بہت بڑی طرائف تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اسی طریقے اس موقع کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ ان کی اچھائیوں کو یاد رکھیں اور ان کی برائیوں کو بھول جائیں، زندہ قومیں اپنے مشاہیر اور اپنے محسنوں کا صرف ماتم ہی نہیں کرتیں بلکہ ان کی دی ہوئی مشعل راہ کو لے کر قوم اور حاکم کی خدمت کرتی ہیں ، اگر کوئی چیز ان کے کردار میں۔ ان کے عمل

[Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui]

میں کسی کو پسند نہ ہو تو وہ اسے نظر انداز کر دے مگر ان کے اتنے روشن اور اچھے پہلو بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو سامنے رکھیں اور اگر میں ان کی فہرست مرتب کرنا چاہوں تو میں سمجھتا ہوں اس ہاؤس کا بڑا وقت لوں گا، مختصراً صرف یہ عرض کر دوں کہ انہوں نے آپ کو سب سے پہلے یہ سبق دیا کہ لوگوں کو اپنے جذبات میں مشغول ہو کر سیاسی مسائل کو جذباتی طریقے سے حل نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے کسی وقت بھی شرافت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنے کسی مخالف کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کی، انہوں نے کبھی دشمنی کی بنا پر کوئی فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے کوشش کی اور بے انتہا دیانتداری سے کوشش کی کہ اس ملک کی سیاست کو نہایت ہی شرافت سے چلایا جائے تاکہ یہ ملک واقعی ایک مہذب جمہوریت کی طرف رواں دواں ہو سکے۔

ان کی ایک اور بڑی خوبی یہ تھی جس کا اگر میں ذکر نہ کروں تو حق ناشناسی ہوگی۔ انہوں نے ہر دور میں یہ کوشش کی کہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کی ترویج و ترقی ہو، انہوں نے اس آئیڈیل کو جو پاکستان بناتے وقت مسلمانانِ برصغیر ہندوستان نے اپنے سامنے رکھا تھا، ہمیشہ اپنے سامنے رکھا۔ انہوں نے بیانگ دہل یہ کہا کہ یہ ایک اسلامی مملکت ہوگی اور یہاں پر قرآن اور سنت کا دور دورہ ہوگا اور یہی وہ چیز

ہے جو ہمیں بڑی عزیز ہے ، ہم اس ملک کی اگر پوری افادیت چاہتے ہیں تو اسلام کا اس کا جزو لاینفک ہے اور اسے ہم ہٹا نہیں سکتے اور انہوں نے اس کی ایسی داغ بیل ڈالی ہے ، انہوں نے اس کی اتنی اچھی بنیادیں رکھی ہیں کہ انشاء اللہ ان اصولوں کو ہم اپنائیں گے اور اس ملک کو صحیح جمہوری قدروں پر لے کر چلنے کی کوشش کریں گے۔

میں آخر میں صرف یہ عرض کروں گا کہ دل نغمین میرا بھی ہے، ماتم کرنے کو میرا دل بھی چاہتا ہے ، آنسو میری آنکھوں میں بھی آتے ہیں ، مگر میں یہ کہوں گا کہ زندہ قوموں کا یہ وتیرہ نہیں ہے۔ وہ ایک شہید ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ شامل تھے وہ بھی شہید ہیں۔ وہ ایک ایسے مقصد کے لئے وہاں گئے تھے جو قومی مقصد تھا، اس میں ان کی جانوں کا جانا شہادت کا درجہ رکھتا ہے۔

روئیں وہ جو قائل ہوں نجات شہداء کے
ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے

جناب قائم مقام چیئرمین : شکریہ ! جناب طارق چوہدری

صاحب۔

جناب محمد طارق چوہدری : شکریہ ! جناب چیئرمین ! کل
پاکستان کی تاریخ کا دوسرا بڑا حادثہ رونما ہوا ہے، قائد اعظم

[Mr. Muhammad Tariq Chaudhry]

محمد علی جناحؒ کی وفات پاکستان کے لئے بہت ہی بڑا سانحہ تھی اور اگرچہ اسلامی عقیدے کے مطابق اور ایک مسلمان کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی موت بے وقت نہیں ہوتی لیکن قائد اعظم کا جانا پاکستان کے اوپر قیامت کی طرح گزر گیا وہ تو بہت ہی بڑا حادثہ تھا، اس کے بعد دوسرا بڑا حادثہ کل رونما ہوا، جس میں افواج پاکستان کے مایہ ناز جرنیل جام شہادت نوش کر گئے جن میں افواج پاکستان کے کمانڈر انچیف، پاکستان کے صدر جناب ضیاء الحق صاحب بھی موجود تھے وہ فوجی وردی میں تھے اگرچہ وہ پاکستان کے صدر تھے لیکن فوجی وردی میں ملبوس فوجی ڈیوٹی دیتے ہوئے، وہاں سے واپس آتے ہوئے وہ ایک حادثے کا شکار ہوئے لہذا شہید ہیں اور شہادت ہی کسی مسلمان کے لئے سب سے بڑا رتبہ ہو سکتی ہے۔ قومی نکر کے علاوہ ذاتی احساس میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ جیسے بنیاد اکھڑ گئی ہو، دیوار گر گئی ہو اور ایک مکان کی چھت خود میرے ہی اوپر آگرنی ہو۔

ہائے موت تجھے موت ہی آئی ہوتی

میں انتہائی افسردہ ہوں، غمزدہ ہوں، میں نے ضیاء الحق کو اتفاق میں بھی دیکھا، اختلاف میں بھی دیکھا، تنہائی میں بھی دیکھا، محفل میں بھی دیکھا، وہ بے مثال، شاندار آدمی

تھے ان کے ساتھ اختلاف کر کے بھی مزہ آتا تھا اور ان سے اتفاق میں بھی مزہ آتا تھا۔ اختلاف جب بھی ان سے کیا گیا تو ان کا ماتھا کبھی شکن آلود نہیں ہوا، انہوں نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اختلاف کو برداشت کیا اس وقت ان کا جانا پاکستان کے لئے بلاشبہ ایک بڑا نقصان ہے، لیکن ان کے بعد آئینی طریقے سے پاکستان میں بہترین available آدمی کو اقتدار منتقل کر دیا گیا ہے۔

آج کے صدر جناب غلام اسحاق خان جو اس سینیٹ کے ایوان کے چیئرمین کی حیثیت سے پاکستان کی سیاست میں اس طرح داخل ہوئے کہ آج وہ پاکستان کے صدر ہیں، ان کو اپنے اس ادارے پر اعتماد کرنا چاہیے اور انہیں extra constitutional

steps لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ادارہ، یہ سپریم باڈی یہاں موجود ہے ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لئے، ان کی مشکلات آسان کرنے کے لئے، پاکستان کو درست سمت میں چلانے کے لئے، جمہوریت کی پٹری پر پھر سے چڑھانے کے لئے ایمر جنسی declare کرنا اور ایمر جنسی کو نسل بنانا یہ آئین کی منشاء نہیں ہے اور ایسے وقت میں ان کو یہ قدم نہیں لینا چاہیے تھا۔ بہر حال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس مشکل وقت میں جب انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے تو اچانک ان کو کیا کیا انتظامات کرنے پڑے ہوں گے، یہ اپنی جگہ پھر بھی میں انہیں اپنے تعاون

[Mr. Muhammad Tariq Chaudhry]

کا پورا یقین دلاتا ہوں، پاکستان کو مضبوط اور قائم رکھنے کے لئے اور پاکستانی قوم کو جمہوریت کی طرف لوٹانے کے لئے اسمبلیوں کی بحالی کے لئے الیکشن کرانے کے لئے ہم پوری طرح ان کے ساتھ تعاون کریں گے، انشاء اللہ!

Mr. Acting Chairman : Mr. Muhammad Ali Khan.

Mr. Muhammad Ali Khan. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

Mr. Chairman : Sir, today the entire nation has been engulfed in immense grief and deep sorrow on the sad and sudden demise of President Muhammad Zia-ul-Haq. Sir, in his untimely death the country has not only lost a sagacious President who was well conversant with the art of war and peace but a patriotic Pakistani and a dedicated *Musalman*. His violent death in the service of his nation is not less than martyrdom. Sir, he was the first President of Pakistan who wished that the country should emerge as an Islamic state in its true sense and with this aim in mind he tried to prepare ground for it so that we may bring an evolutionary change in our society. Sir, some people may have had political differences with him but I appeal to all of them to forget and forgive him and let that be a part of our history. I pray that Almighty Allah may shower all his blessings on the departed soul as well as on the souls of all those who died with him in that air crash and give strength and courage to the members of their bereaved families to bear their irreparable losses with great fortitude. Sir, at this juncture I take this opportunity of assuring fulfilled support to our most talented new President. I hope that the process of democracy started earlier will *Insha Allah* attain greater heights under the able guidance of our most impartial and non-controversial President Khan Ghulam Ishaq Khan. May the Almighty Allah grant him strength to serve Pakistan to the best of his ability (Aameen).

Mr. Acting Chairman : Thank you. Nawabzada Jahangir Shah Jozgai.

تو اب زادہ جہانگیر شاہ : آعوذ باللہ من الشیطن الرجیم ، بسم اللہ الرحمن الرحیم ۝ ، جناب چیئرمین ! مہربانی شکریہ ، کل کا سانحہ جو اس قوم پر گزرا ہے ، اس ملک پر گزرا ہے ، ایسے بہت سے سانحات

پہلے بھی گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پر جب کوئی تکلیف آئے تو تم صبر اور استقلال سے کام لو۔ مسلمان کا شیوہ یہ ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس سے اپنے صبر، ہمت و استقلال کی دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل ضیاء الحق ایک خاکسار، ایک مرد مومن تھے۔ اس نے گیارہ سال تک اس ملک کی خدمت کی۔ بہت ساری ایسی خدمات ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو کہ چھپی ہوئی ہیں، بہر صورت وہ ہم سے اس وقت جدا ہوئے ہیں جب افغانستان کا معاملہ زیرِ تضحیہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم شخصیتوں کے جانے سے ختم نہیں ہوتی لیکن اگر ایک قوم اپنے اصول چھوڑ دے تو پھر وہ قوم زندگی میں آزاد رہنے کے قابل نہیں رہتی اور نہ اس کو آزادی کا حق ہوتا ہے۔ ہم نے ایٹ پاکستان کو جاتے ہوئے دیکھا بہت ساری آنکھیں اشک بار تھیں، بہت سارے گریبان پھٹے ہوئے تھے، بہت سارے ایسے لوگ تھے جو جام و ساغر سے شوق فرما رہے تھے ہم نے وہ سانحہ بھی دیکھا۔ آج بھی ہم ایسے ہی ایک سانحے سے گزر رہے ہیں، ہمیں صرف قوم سے اتنی گزارش کروں گا کہ جب ایسے حالات درپیش ہوں تو سب سے بڑی چیز استقلال، ہمت و صبر اور اتحاد کو تھامے رکھنا ہے تاکہ ہم اپنے فرائض کو اپنے آئین کے تحت سرانجام دے سکیں۔

[Nawabzada Tehangir Shah]

میں سمجھتا ہوں کہ جناب غلام اسحاق خان جو تین سال سے کچھ عرصہ تک اس سینیٹ کے چیئرمین رہے جس انداز سے انہوں نے سینیٹ کو چلایا ہے اور جس انداز سے انہیں تجربہ اور علم حاصل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ قوم کی کیا ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ آئین کے مطابق تعاون کریں۔ ہم جب کسی کے ساتھ تعاون کی بات کرتے ہیں تو وہ قومی مفادات کے لئے ہوتا ہے کسی کی ذات اور اپنی ذاتی خواہش کا اس میں دخل نہیں ہوتا ہے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طاقت دے۔ ہماری طاقت ہمیں اسی وقت واپس مل سکتی ہے جب ہم اسلام کے اصولوں کے اوپر عمل کریں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں اور اس کام سے احتراز کریں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یقیناً ہمارا بیڑہ پار ہوگا۔ آخر میں، میں ان تمام families سے جو اس ساتھ میں متاثر ہوئی ہیں دست بدعا ہوں، خاص کر ہمارے دوست ملک امریکہ کے سفیر بھی اس حادثے میں جان گنوا چکے ہیں، میں آپ کے توسط سے ان کی فیملی کے ساتھ بھی اتوسس کرتا ہوں۔

جناب قاسم مقام چیئرمین : شکریہ ! نواب صاحب ، جناب

قاضی صاحب ۔

قاضی عبداللطیف : نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب چیئرمین ! کل کا حادثہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا حادثہ ہے جو ساری قوم اور سارے پاکستانی باشندوں کا مشترکہ صدمہ اور مشترکہ غم ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی کو بھی مفر نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہ اٹل فیصلہ کیا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آکر رہے گی۔ اگرچہ بہت مضبوط ترین قلعہ میں بھی آپ کیوں نہ ہوں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہر کے گورنر تھے، آخری وقت میں انہوں نے اپنے محافظوں کو بلایا اور اشارہ کیا کہ میں نے بڑے عرصے تک آپ کو تنخواہ دی ہے، کس چیز کی تم تنخواہ لے رہے تھے تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ تو فرمایا بالکل ٹھیک کہا اس وقت وہ دشمن میرے سر پر آیا ہوا ہے جس سے تم میری حفاظت کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ کون۔ انہوں نے کہا کہ وہ موت ہے۔ اپنے کام کے لحاظ سے آپ مجھے موت سے بچائیں، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر عرض کیا کہ آپ اتنے عقلمند ہو کر یہ کیا فرما رہے ہیں کہ موت سے بھی کوئی کسی کو بچا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اگر عقلمند ہوتا تو اتنا عرصہ آپ کو تنخواہ نہ دیتا۔ میں بھی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہا اور آپ بھی مجھے درغلاتے رہے کہ گویا کہ آپ میری موت سے حفاظت کر رہے ہیں۔ موت سے کسی کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔

[Qazi Abdul Latif]

فرمایا کہ موت انسان کو تمام دشمنوں سے بچا کر اپنے وقت تک پہنچاتی ہے۔ انسان کا بڑا محافظ انسان کی اپنی موت ہے کہ وہ تمام حوادث سے بچا کر اُسے اپنے وقت تک لاتی ہے۔ کل جو ساتھ ہوا جس میں پاکستان کی بہت سی قیمتی جانیں اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہیں، انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ہم بہت بڑے سانحے سے دوچار ہوئے ہیں۔ جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے اپنے دور حکومت میں جو کارنامے انجام دیئے ہیں وہ رہتی دنیا تک یادگار رہیں گے۔ انہی کے ذریعہ سے پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا تھا کہ تمام عالم اسلام کی جانب سے اقوام متحدہ میں نمائندگی دی گئی تھی اور انہوں نے اس نمائندگی کو اس طریقہ سے نبھایا کہ وہاں جا کر پہلی مرتبہ (اقوام متحدہ میں) قرآن کریم کی تلاوت کروائی۔ پہلی مرتبہ انہوں نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ الحجۃ الوداع پیش فرمایا اور فرمایا کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لئے ہمارے پاس بھی ایک مسودہ ہے اور دنیا کے سامنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وہ تعلیم پیش کی اور بتایا کہ ہمارے پاس یہ چارٹر موجود ہے انسانی حقوق کے تحفظ کے لئے۔ یہ انہی کا کارنامہ تھا۔

پاکستان کے اندر انہوں نے اسلام کے لئے جس محبت اور جذبے کا اظہار کیا، میرا خیال ہے کہ اسے ان کے بدترین مخالف

بھی تسلیم کرنے سے نہیں ہچکچاتے۔ وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا جذبہ اسلام تمام جذبات پر غالب تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان صحیح معنوں میں ایک اسلامی مملکت ہو اور اسلامی حکومت ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس فکر کے اندر ان سے کوتاہی ہوئی ہو، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے اسلام کے نافذ کرنے کے لئے جو اقدامات کئے یا جو جذبہ ان کے دل میں تھا، وہ قابل قدر تھا، وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا واحد سربراہ تھا، جس نے عملی طور پر نفاذ اسلام کے لئے اقدامات کئے ہیں اور حدود، زکوٰۃ، صلوات وغیرہ، یہ سارے نظام انہوں نے جاری کئے تھے۔ یہ انہی کا دور تھا، یہ سب کچھ انہی کے دور میں ہوا ہے۔

اس کے علاوہ، افغانستان کے مسئلہ میں انہوں نے جس ہمت، استقامت اور عزم کا ثبوت دیا ہے، اس کو تمام دنیا نے تسلیم کیا ہے، اقوام متحدہ کے تمام ممالک اس سے متفق تھے۔ حتیٰ کہ ہم نے ایک سو بائیس ووٹ اپنے حق میں حاصل کئے تھے، یہ ان کے عزم، ان کے استقلال، اور ان کی مستقل مزاجی ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اپنا کیس اس طریقے سے وہاں پیش کیا کہ تمام دنیا اس کو ماننے پر مجبور ہو گئی اور آخر تک وہ اس پر ڈٹے رہے۔ میں یہ کہوں گا کہ افغانستان کے جہاد کی فتح کا سہرا جنرل ضیاء الحق صاحب اور ان کے رفقاء کار اور ان کے مشیروں

[Qazi Abdul Latif]

کے سر پر ہے۔ انہی کی وساطت سے پاکستان کے سر پر ہے۔ یہ انہی کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے افغانستان سے ایک بہت بڑی سپر طاقت کو اپنی استقامت اور اپنے ہی عزم کے ذریعے سے باہر نکلوایا، سیاسی محاذ پر بھی انہیں شکست دی اور فوجی محاذ پر بھی انہیں شکست دی اور وہ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔

یہاں پر انہوں نے جمہوریت کا نفاذ کیا ہے یا نہیں کیا، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ جمہوریت ہے کیا؟ سوال یہ ہے کہ جمہوریت کی جامع اور معنی کے لحاظ سے تعریف کیا ہے، بعض لوگوں کو جمہوریت کا ہیضہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ کی جمہوریت اپنے ڈھب کی ہے، اٹلی کی اپنی ہے، امریکہ کی اپنی ہے، فرانس کی اپنی ہے، جتنے بھی ممالک اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں انہوں نے اپنے حالات کے مطابق وہاں جمہوریت کا ڈھانچہ بنایا ہوا ہے اور اپنے ملک کے تحفظ کے لئے بنایا ہے۔ تمام ممالک نے اپنے تحفظ کے لئے یہ اقدامات کئے ہیں کہ ان کے ملک میں کوئی غیر معمولی حالات واقع ہو جائیں تو ان پر کنٹرول کیسے کیا جائے گا، ملک کا تحفظ کس طرح سے کیا جائے گا۔ اس کے لئے انہوں نے اپنی اپنی کنٹرولنگ اتھارٹیاں بناٹی ہوئی ہیں۔ برطانیہ میں جمہوریت کے باوجود آج بھی بادشاہت موجود ہے اور ان کے پاس کچھ ایسے اختیارات موجود ہیں کہ وہاں پر کوئی غیر معمولی حالات پیدا ہو جائیں تو اس وقت ان اختیارات کا سہارا لے کر اپنے ملک کا تحفظ اور اس کا بچاؤ کر سکتے ہیں۔

میں کیا عرض کروں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا تحفظ اور ہمارے ملک کے اندر جمہوریت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ ہم نے کبھی اس پر نہیں سوچا، ہم نے مستعار جمہوریت کی تعریف تو کی ہے، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ بھائی جمہوریت وہی ملنی چاہیے جو ہمیں غیر کی جانب سے ملے، میں پوچھتا ہوں کہ خدا کے لئے سوچیں آپ کے پاس اپنا بھی کچھ ہے یا نہیں اپنے ملک کے لئے بھی سوچیں کہ آپ کے ملک کا تقاضا کیا ہے اور یہاں کیا ہونا چاہیے؟ میں نے ابتدا سے ہی ایک تجویز پیش کی تھی اور یہ آج تاریخ کے اندر موجود ہے اور اس پر میں پشیمان نہیں ہوں، اور آج بھی یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ایک ایسی کونسل ہونی چاہیے جو غیر معمولی حالات کے وقت ملک کا تحفظ کر سکے۔ میں اس بات پر بڑا حیران ہوں کہ جب یہ کہا جائے کہ ایک شخص کو ایمر جنسی علاج کے لئے ہسپتال میں لے جایا جاتا ہے، ڈاکٹر اس کے علاج کے لئے سوچتا ہے کہ اس کے متعلق کیا کرنا چاہیے، اس وقت ڈاکٹروں کے لئے ایمر جنسی ہوتی ہے اور تمام ڈاکٹر سدا کاروبار چھوڑ کر وہاں پہنچ جاتے ہیں، اگر اس وقت کہا جائے کہ فلاں ڈاکٹر اپنے کمرے میں اس وقت کیوں نہیں ہے، فلاں ڈاکٹر نے اپنا کام کیوں چھوڑ دیا ہے تو یہ غلط بات ہوگی۔ ایک شخص مر رہا ہے، ایک قیمتی جان جا رہی ہے، اس ایمر جنسی کے پیش نظر آپ اس کے لئے بورڈ مقرر کرتے ہیں اور ڈاکٹروں کو اختیار ہوتا

[Qazi Abdul Latif]

ہے کہ انہی حالات کے مطابق اس کا علاج کریں۔ حالات کے مطابق ہی دیگر اقدامات سے استفادہ کریں۔۔ ایک شخص کی جان بچانے کے لئے تو یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔۔ اسی طرح ملک کے حالات بھی ایمر جنسی کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ ملکی حالات میں غیر معمولی حالات آیا کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ ایسی صورت حال سے تحفظ حاصل کرنے کے لئے آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے۔ ہم فوج کے ساتھ بھی لڑتے ہیں، صدر کے ساتھ بھی لڑتے ہیں اور اپنے وزراء کے ساتھ بھی لڑتے ہیں۔ خدا کے لئے یہ بھی تو بتائیے کہ کوئی بھی آپ کے پاس ایسی شخصیت ہے کہ جو قابل احترام ہو، کوئی بھی ایسی شخصیت ہے کہ جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ اس کے متعلق ہم الفاظ احتیاط سے استعمال کریں گے۔ ہمارے تیروں سے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی محفوظ نہیں رہا اور اس کو ہم نام دیتے ہیں جمہوریت کا۔

یہ جناب اس عطائی حکیم کی جمہوریت ہے کہ جو ایک گاؤں میں گیا اور اس نے ایک مریض کو دوائی دی جس کے متعلق کہا گیا تھا کہ اسے قبض ہے، اس کے لئے حکیم نے اسہال کی دوائی دی۔ جب اسے دست آنے لگے۔۔۔۔۔

(مداخلت)

جناب سلیم سیف اللہ خان : میرا خیال ہے کہ آپ سب کو

دو، دو منٹ دیں تو بہتر ہوگا۔

جناب قائم مقام چیئرمین : قاضی صاحب انشاء اللہ اب ختم کرنے والے ہیں ، ابھی وقت ہے ، انشاء اللہ آپ کو وقت مل جائے گا۔

قاضی عبداللطیف : میں گزارش کروں گا کہ جب دوسرے لوگ اس نوعیت سے بول رہے تھے تو اس وقت ان لوگوں کو وقت کی تحدید کا خیال کیوں نہیں آیا۔

جناب قائم مقام چیئرمین : قاضی صاحب آپ اپنی تقریر جاری رکھیں۔

قاضی عبداللطیف : میرا فرض ہے کہ میں ان کا جواب دوں کیوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے جناب والا ! میں عرض کر رہا تھا کہ عطائی حکیم نے وہاں گھاؤں میں جا کر مریض کو اسپہال مٹی دوائی دی۔ مریض کے گھر والے حکیم کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت ، مریض کو بہت زیادہ اسپہال آرہے ہیں ، تو انہوں نے کہا کہ بڑا نائدہ ہے۔ جب مریض کی حالت غیر ہو گئی تو پھر گھر والے آئے اور کہا کہ مریض کو تو بہت زیادہ اسپہال آرہے ہیں اور حالت غیر ہو گئی ہے تو حکیم نے پھر کہا کہ بڑا نائدہ ہے۔ جب مریض کے مرنے کی اطلاع ملی تو حکیم نے کہا کہ شکر ہے کہ مر گیا ہے ، ورنہ حالات بہت خراب ہو جاتے۔ انا اللہ وانا علیہ راجعون ایسی جمہوریت ہوتی ہے ، اسی جمہوریت سے آپ نے آدھا ملک گنوا دیا ہے ، اور ہمیں یہ تمام تاریخی باتیں معلوم ہیں۔

[Qazi Abdul Latif]

کہ جس وقت ایوب خان کے سامنے ہمارے یہ سیاسی راہنما اور ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے، ان سے ایوب خان نے کہا کہ جو کچھ تم پھاہتے ہو میں تمہیں دینے کے لئے تیار ہوں، انہوں نے کہا کہ پہلے ججیب کو رہا کرو، پھر اس کے بعد کوئی اور بات کریں گے۔ آپ نے اس کا کیا نوٹس لیا ہے۔ آج آپ کے پاس تبدیلی صدارت کا کیا طریقہ ہے؟ میں بڑے ادب سے اور بڑے احترام کے ساتھ اپنے اپنے معززین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ خدا کے لئے کوئی ایسا نسخہ لائیے جس میں اس ملک کے تحفظ کا کوئی طریقہ کار وضع ہو سکے۔ بہر حال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضیاء الحق، ان کے رفقاء نے جو کارنامے انجام دیئے ہیں، وہ رہتی دنیا تک تاریخ کے اندر یقیناً یادگار رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ہماری یہ مشکل آسان فرمائے اور اس ملک کا تحفظ فرمائے۔

جناب قائم مقام چیئرمین : جناب شاد محمد خان صاحب۔

جناب شاد محمد خان : جناب چیئرمین صاحب! سینیٹ کی ساری کارروائی چھوڑ کر اس قرارداد کو وزیر انصاف نے پیش کیا ہے چنانچہ اسی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضور والا! اسلاف سے تقاضا بھی یہی ہے کہ جو شخص مر جائے اس کی عیب جوئی کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان شہدا کو اچھے نام سے یاد نہیں کر سکتے تو ان کی پالیسیوں پر تنقید کرنے کے لئے آج کا دن موزوں نہیں تھا۔ لہذا میں ان لوگوں کو، جو ان کی پالیسی سے اختلاف

رکھتے تھے کہتا ہوں کہ اس وقت جو وہ اپنے اختلاف کا اظہار کر رہے ہیں، وہ اپنی کم مائیگی کا ثبوت دے رہے ہیں کیونکہ آج کے دن مرحومین کے لئے دعا کرتی چاہیے، ان کے اچھے کارناموں کو یاد کرنا چاہیے، اعتراض کے لئے دوسرے فورم بھی موجود ہیں اور آئندہ بھی ان کی پالیسیوں پر اعتراض کر سکتے ہیں۔

حضور والا! ہماری قوم جس سانحہ سے دوچار ہوئی ہے سوائے اس کے ہم اس پہ صبر کریں اور گوئی چارہ کار نہیں، ان کے ایصالِ ثواب کے لئے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ تاکہ ان مرحومین کو جو شہید کا درجہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنے قومی فرائض ادا کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ حضور والا! ۱۹۷۷ء کی یات ہے جب پاکستان کی سالمیت اور استحکام خطرے میں تھا اور ۹ جماعتی اتحاد سامنے آیا، تحریک مصطفیٰ چلی۔ ان حالات میں جو سیاسی اکابرین کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے، صدر ضیاء الحق نے قوم کو سنبھالا دیا اور عنانِ اقتدار حاصل کی۔ ہم ان کے ممنون و مشکور تھے اور قوم بڑی خوش تھی۔ انہوں نے قوم کو ایک انتخابی پروگرام دیا تھا۔ بعد میں انہی اکابرین کے کہنے پر کہ وہ الیکشن کے لئے تیار نہیں۔ اسے ملتوی کرنا پڑا۔ پاکستان کی حالت تباہ و برباد تھی، معیشت بڑی خراب تھی۔ سابقہ دور کے کارنامے ہمیں لے بیٹھے تھے۔ خزانہ خالی تھا لہذا ان حالات کو سنبھالا دیتے ہوئے

[Mr. Shad Muhammad Khan]

وہ دھیرے دھیرے ہمیں ایک منزل کی طرف لے گئے جس کا اختتام بالآخر جمہوریت کی بحالی پر ہوا۔

حضور والا! ہمیں ان کے دور کے کارنامے خاص طور پر یاد رکھنے چاہئیں۔ ۱۹۵۷ء کے بعد جو آئین بنا اس پر عمل نہیں کیا گیا تھا۔ اسلام کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں کی گئی تھی۔ لیکن ان کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی طرف پیش قدمی کی، قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنا دیا اور آج نفاذ شریعت کا ایک آرڈیننس جاری کر کے اس میں مزید پیشرفت کی گئی۔ لہذا ان کے ان کارناموں کو نہیں بھولنا چاہئے۔ وہ پکے مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور جملہ مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور ہمیں ہمت دے کہ ان کی پالیسی پر گامزن رہیں۔ جناب والا! یہاں حلف اٹھانے کے متعلق اور دوسری کچھ باتیں کی گئی ہیں جو ٹھیک نہیں، آئین کے تقاضوں کے مطابق جو کام ہوا ہے اسے سراہنا چاہئے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر غلام اسحاق خان صدارت کا عہدہ نہ سنبھالتے تو ہم مارشل لاء کی طرف دیکھتے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ہم علیحدہ کرتے اور مارشل لاء کو دعوت دیتے۔ پھر ان جرنیلوں سے ہماری گلو خلاصی بڑی مشکل ہو جاتی۔ لہذا ان کا یہ اقدام نہایت مناسب، صحیح اور درست ہے۔

حضور والا! اب ہم ان کو یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ جس پالیسی کو انہوں نے اپنایا تھا وہ قوم کے مفاد میں ہے، یہ سینٹ اور قوم انشاء اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے گی اور میں پھر ان اکابرین کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی پارٹی میں سکت ہے تو وہ مسلم لیگ ہے، اس کو یکجا کرنے کے لئے عملی کارروائی کئی جائے تاکہ ملک کو استحکام، بقا اور سالمیت مل سکے۔ آئیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کو مغفرت عطاء فرمائے۔ شکر یہ!

جناب قائم مقام چیئرمین : ڈاکٹر نور جہاں پانیزئی صاحبہ۔

ڈاکٹر نور جہاں پانیزئی : کل کا حادثہ ایک ایسا سانحہ عظیم ہے کہ ساری قوم اس پر اشکبار ہے۔ جناب محمد ضیاء الحق ایک بڑے شفیق انسان تھے۔ ان کا رویہ ہمیشہ بڑا مشفقانہ رہا ہے حالانکہ ان کے ساتھ جتنی بھی سختی سے بات کی جاتی وہ ہمیشہ مسکرا کر اور بڑی شفقت سے اس کا جواب دیتے تھے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اس نے ملک کی باگ ڈور اس وقت سنبھالی جب ملک پر بہت مشکل آپڑی تھی اور کسی کی عزت اور ناموس محفوظ نہیں تھی۔ لیکن انہوں نے اس پر بڑے صبر اور ہمت سے قابو پالیا تھا اور خاص کر بلوچستان کے لئے ان کی حیثیت ایک blessing کی سی تھی۔ ان سے پہلی حکومت نے بلوچستان

[Dr. Noor Jehan Panezai]

پر جو کچھ کیا تھا وہ سب کو معلوم ہے لیکن ان کی حکومت ایک blessing تھی۔ اسلام کے لئے ان کی خدمات فراموش نہیں کی جاسکتیں اور یہ کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک جنرل ضیاء الحق نے introduce کرائی تھی۔ میں آخر میں اپنی اور تمام پاکستانی خواتین کی طرف سے جنرل ضیاء الحق اور ان کے رفقاءے کار جو ان کے ساتھ شہید ہوئے ہیں مغفرت کی دعا کرتی ہوں۔ پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔

اب ملک کی باگ ڈور بڑے محترم و معزز انسان کے سپرد کی گئی ہے جو یقیناً ایک خوش آئند قدم ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ انشاء اللہ تعالیٰ اس مشکل ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے نبھانے میں کامیاب ہوں گے۔ ہمارا پورا تعاون ان کے ساتھ ہے۔ لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جب اس ملک میں سینٹ برقرار ہے اور کینیٹ موجود ہے تو صدر صاحب کو ایمر جنسی کو تسلسل بنانے کی ضرورت کیا تھی، ساری قوم جاگی ہوئی ہے اور اس غم میں شریک ہے۔ اس وقت ایمر جنسی declare کرنے کی ضرورت تو مجھے نظر نہیں آئی اگرچہ ہم اپنے صدر صاحب کے ساتھ ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ وہ اس سارے سانحہ کے باوجود یقیناً الیکشن کی طرف ضرور آگے بڑھیں گے اور ملک کو عوام کی مرضی کے مطابق چلائیں گے۔ شکر یہ!

اخونزادہ بہرہ ورسعید : نحمدہ و نصلی علیٰ رسول الکریم ۵۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۵۔ جناب چیئرمین ! کل جو غیر متوقع حادثہ رونما ہوا ہے وہ واقعی ایک قومی المیہ ہے۔ اس حادثے میں نہ صرف اس مملکت کے صدر بلکہ ان کے ساتھ اور بھی ملک کی مایہ ناز ہستیاں ہم سے جدا ہو گئی ہیں۔ میں جناب چیئرمین صاحب ! یہ محسوس کرتا ہوں کہ بہت سارے دوست اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، میں دو ہی باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروں گا۔ ایئرفورس کے سی۔ ۱۳۰ میں صدر صاحب شریف لے جاتے ہیں۔ ان کے پاس اتنے technicians

ہیں، ان کے پاس ایئرفورس کی گارڈ ہے، آخر وہ کون سی وجہ ہے، کس سے غلطی یا کوتاہی ہوئی یا کس نے عمداً اس چیز کی اجازت دی کہ اس جہاز کو اڑایا جائے۔ ایئر مارشل اصغر خان کا بیان ریکارڈ پہ ہے کہ یہ ایسا ایئر کرافٹ ہے کہ اس میں ۹۹ فیصد ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ سبوتاژ کا واقعہ ہی ہے۔ جب ہمارا کوئی رہنما یا مدبر ہم سے اس طریقے سے الگ کیا جاتا ہے۔ ہم صرف فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ آسٹو بہاتے ہیں، کمیشن مقرر کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیاقت علی خان صاحب بھی شہید کر دیئے گئے تھے، بڑی انکوائریاں ہوئیں لیکن کیا ہوا اس کا؟

میں اپنے موجودہ صدر صاحب سے اور ان کے رفقاء کے کار سے یہ گزارش کروں گا، کہ وہ یہ معلوم کریں کہ یہ تخریب کاری

[Akhunzada Behrawar Saeed]

کس کی کارروائی ہے۔ یہ KHAD کی کارروائی ہے یا KGB کی ہے یا ہمارے ازلی دشمن ہندوستان کی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اتنی اہم ٹیم جو اپنے فرائض کی انجام دہی کے لئے جائے، ائیر کرافٹ کو ائیر پورٹ پر چھوڑ دے اور پھر واپس آکر ائیر کرافٹ پر سوار ہو اور اڑان کے فوراً بعد دھماکے سے اڑ جائے، یہ ایک بہت ہی سنگین جرم ہے۔ موجودہ حکومت پاکستان پر یہ فرض ہے کہ وہ اس ہاتھ کی نشاندہی کرے جس ہاتھ نے یہ کام کیا یا جس دماغ نے یہ conspiracy کی۔ اس کو میں نہ تو حادثہ تسلیم کرتا ہوں اور نہ میں اس کو ٹیکنیکل خرابی تسلیم کرتا ہوں۔ میں صرف ایک ہی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ ایک تخریبی کارروائی ہے، چاہے یہ تخریبی کارروائی ہمارے اپنی قوم کے اندرونی کسی adventurer کی ہے یا بیرونی دشمنوں کی ہے۔

جناب والا! صدر مملکت میں خوبیاں بھی تھیں، ان میں کمزوریاں بھی تھیں۔ انسان میں خوبیاں اور کمزوریاں دونوں ہوتی ہیں اور صدر مملکت بھی ایک انسان تھے۔ میں جب اس وقت کو یاد کرتا ہوں جب پی این اے کے جلوس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ صدر آگے بڑھے اور حکومت سنبھالے۔ جب میں وہ نقشہ یاد کرتا ہوں اور پھر آج کے اخبارات میں کچھ حضرات کے بیان پڑھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں قوم ایک خانہ جنگی کے لئے تیار کروائی گئی تھی۔ کسی کی عزت و ناموس محفوظ نہیں

concentration camps

تھی۔ جمہوریت سے نفرت کرائی گئی تھی۔

جگہ جگہ قائم ہوئے تھے۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو چکا تھا اور اپنے بنائے ہوئے آئین میں تھوک کے بھاؤ ترامیم کر کے اس کا چہرہ ہی مسخ کر دیا گیا تھا۔ ایسے وقت میں جنرل ضیاء الحق نے اگر صرف ان مصائب اور تکالیف سے اس قوم کو پھٹکارا نہیں دلایا بلکہ اس وقت کی حکومت کی یہ کوشش تھی کہ وہ کسی طرح اسلام کو ملک بدر کر دے، اس کو بھی سہارا دیا۔

جناب عالی صدر ضیاء الحق کی خارجہ پالیسی خاص کر افغانستان کے متعلق، میں یہی کہوں گا کہ وہ واحد شخصیت تھی جس نے یہ جانتے ہوئے کہ روس ایک سپر طاقت ہے، اس کے ساتھ ٹکر لینا پاکستان کے لئے بہت ہی مشکل ہے یا علامہ اقبال کے الفاظ میں، (کنجشک فرومایہ کو شاصین سے لڑا دو) یہ جرأت مندانہ پالیسی اختیار کی۔ جس حوصلے اور تدبیر سے انہوں نے یہ پالیسی وضع کی اور جس طریقے سے وہ اس پر قائم رہے، آج وہ کاش زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ مجاہدین کیسے آگے بڑھ رہے ہیں اور کتنی جلدی انشاء اللہ افغانستان میں ایک اسلامی مملکت قائم ہو جائے گی۔ میں جناب عالی! مزید اتنا کہوں گا کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ انسان کا پیدا ہونا اور مرجانا لازم اور ملزوم ہے، وہ ہم سے جدا ہو گئے خدا ان کی مغفرت کرے۔

اس وقت آئین کی رو سے جس شخصیت کو حکومت سونپی گئی ہے وہ غلام اسحاق خان ہیں جو تجربہ کار، ایماندار، حوصلے

[Akhunzada Behrawar Saeed]

والے ، اور صاحب علم شخص ہیں، وہ ملکی حالات کو سمجھتے ہیں، وہ ملک کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ انہوں نے جو اقدامات رات کیئے ہیں اس پر وہ ضرور نظر ثانی کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایمر جنسی کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور پھر خاص کر جو کونسل بنائی گئی ہے اس کی نہ تو آئین میں کوئی گنجائش ہے اور نہ اس کی کوئی مثال پاکستان میں موجود ہے اور نہ اس کی کوئی مثال کسی اور ملک میں پائی گئی ہے۔ اس لئے اس پر نظر ثانی کر کے اس کونسل کی جتنی جلد ہو سکے پھٹی کرانی چاہیے ، جناب عالی! ٹھیک ہے کہ اس ملک میں قحط الرجال نہیں ہے۔ مسلمانوں پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں یہ قوم ان کی عادی ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ جس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے وقت ہمارے دشمن نے دکن حیدرآباد پر فوج کشی کی تھی۔ مناو در ، جو ناگڑھ اور کشمیر میں اپنی فوجی طاقت بڑھاٹی۔ اگر وہ اس تاک میں ہے تو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس قوم کو مت للکارو اور اگر للکارو گے تو اس قوم کا ہر ایک فرد چٹان کی طرح تمہارے سامنے کھڑا ہوگا۔ ضیاء الحق صاحب چلے گئے، ہمارے پاس دس کروڑ ضیاء الحق اور ہیں انشاء اللہ تعالیٰ ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے۔ لیکن میں اتنا کہوں گا کہ ایسے وقت میں ان کا ہم سے الگ ہو جانا واقعی ایک قوتی المیہ ہے۔ خدا ان کی مغفرت کرے، ان کے ساتھ اور

جو دوست ہم سے جدا ہو گئے ہیں خدا ان کی مغفرت فرمائے اور
ان کے خاندانوں کو خدا صبر جمیل عطا فرمائے۔ شکر یہ!

جناب قائم مقام چیئرمین : شکر یہ جنرل سعید قادر صاحب

Lt. Gen. (Retd.) Saeed Qadir : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

Mr. Chairman, I stand in grief to condole the death of the President of Pakistan and his associates. This nation has lost a devout Muslim, a Mujahid, statesman and a soldier. Pakistan's head stands high amongst the comity of nations today in the international field and the one person responsible for that was the late Gen. Muhammad Zia-ul-Haq. I do not wish to go into the history of the imposition of Martial Law, enough has been said, I do not wish to go into the constitutionality of anything but if there is one man who served this nation devoutly through these 11 years, we cannot forget what has been done for us. Pakistan's name in the comity of international nations was hardly known before the advent of the 71's affairs of this country. Whatever happened in 71 is too well known to be described once again but the shock of 71 could not be got over by many of us and one person who never got over this shock as a soldier was the late Gen. Muhammad Zia-ul-Haq. It is a matter of history that this particular shock dis-united the nation and it was an effort on his part to once again re-unite this nation and bring it back to its original standing where we could hold our head high at least in the neighbourhood from where we had had this death blow.

Then, came the Afghan issue in 1979 and the entire Muslim world shaken with the advancement of a super power into Afghanistan. It was one single man who then took over the leadership of the Muslim world and here in this very place, Islamabad, the Islamic World gave full powers to the late Gen. Muhammad Zia-ul-Haq to act in accordance with what he thought best and the Islamic World backed him totally to stand up to a super power and get a settlement done. And we all are a witness to this fact that it was his unflinching policies which brought Pakistan to come to an agreement with a super power with regard to Afghanistan and the sad part is that he could never see Afghanistan rehabilitated, resettled but that day is not far away when *Insha Allah* Afghanistan will be fully established through the Mujahidin as a democratic Islamic state. The Arabs can never forget the late Gen. Muhammad Zia-ul-Haq, the Egyptians can never forget the late Gen. Muhammad Zia-ul-Haq, it was he who single headedly manoeuvred the re-entry of the Egyptians into the Arab World. How can we forget that speech which he delivered in Rabat. The country's strength lies in its defence forces and the unity of the nation. Over the 11 years he built this army into a

[Lt. Gen. (Retd) Saeed Qadir]

modern army which can stand up to its neighbours without any doubt. If Mr. Rajiv Gandhi thinks that he can take this country by his threats he is sadly mistaken. I think the Armed Forces and the nation stand unified today to take any cognizance of a threat from our massive neighbour — India. We should convey this very clearly to them that this is not a sort of threat which can be allowed to pass simply coming from the head of the state of a responsible state. If they call themselves democratic at least they should take care of this part that they should not try and play about with the safety of their neighbours who live in the region, and so far in his 11 years the late President Zia-ul-Haq tried his level best in fact he bent backwards to try and come to an understanding with our big neighbour but unfortunately every handshake which is tried to be made was flouted. I hope that there will be saner elements prevailing in India and they will make sure that henceforth the hand of friendship would not be forsaken. We grieve with the family and we convey to the family our deep condolences. We grieve with the Americans for the untimely death of their able Ambassador Mr. Arnold Raphel.

In the end, I would like to state that the responsibility on the new government headed by Mr. Ghulam Ishaq Khan is grave. There is no doubt that this nation needs to be united at this time to go through the democratic process of elections due to be held on 16th of November and *Insha Allah* Pakistan will come out with flying colours. Thank you Mr. Chairman.

Mr. Acting Chairman : Thank you. Malik Nasim Ahmed Aheer.

ملک نسیم احمد آہیر : شکریہ ! جناب چیئرمین! میں اس وقت جذبات سے سخت مغلوب ہوں ، میں نے جنرل ضیاء الحق کو مخالفت میں بھی دیکھا اور پھر جب انہیں قریب سے دیکھا تو اتنا عظیم انسان پایا کہ میں انہی کا ہو کر رہ گیا ، میں اس سے اس لئے محبت کرتا تھا کہ وہ پاکستان سے محبت کرتا تھا ، میں نے اس دو اڑھائی سال کے عرصے میں جنرل ضیاء الحق کو بہت قریب سے دیکھا ، مجھے وہ دن نہیں بھولتا جب

American Congressmen

ایوان صدر کے بینکوٹ ہال میں کی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی اور جب وہ تقریر کے لئے اٹھے تو جارج ولسن جو پاکستان کے ایک عظیم دوست ہیں انہوں نے جنرل محمد ضیاء الحق کو مخاطب کرتے ہوئے مذاق کے انداز میں کہا کہ جنرل صاحب آپ کے پاس تو آپ کی لکھی ہوئی تقریر بھی ہے اور اپنی عینک بھی ، میں نہ تو اپنی عینک لایا ہوں اور نہ میرے پاس لکھی ہوئی تقریر ہے ۔ جنرل صاحب جب روسٹرم پر پہنچے تو انہوں نے اپنی عینک بھی رکھ دی اور تقریر بھی رکھ دی اور انہوں نے دروازے بند کرنے کو کہا اور کہا کہ آج میرے امریکی دوست یہاں تشریف لائے ہیں اور آج جب اس ملک میں جمہوریت قائم کر دی گئی ہے اور افغانستان کی جنگ ایک ایسی سیٹج پر پہنچ گئی ہے جو انتہائی نازک مرحلہ میں داخل ہو چکی ہے، میں اس زمانے کی بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جب افغانستان کے اندر روس کی فوجیں داخل ہوئیں، اس وقت کے امریکہ کے صدر کو میں نے 4 ماہ پہلے اس بات کی اطلاع دی تھی کہ عنقریب روسی فوجیں افغانستان میں داخل ہو جائیں گی لیکن مجھے اس کا کوئی جواب نہ ملا اور پھر جب دسمبر 19۷9ء میں روس کی فوجیں تہمتے افغانستانیوں پر قابض ہو گئیں تو اس وقت اس مرد مجاہد نے کہا کہ میں نے اکیلے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اس بات کو اصولی طور پر سمجھتے ہوئے کہ کسی طاقت کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت کے

[Malik Nasim Ahmed Aheer]

بل بوتے پر کسی چھوٹی قوم پر قبضہ کرے۔ اس وقت چند
 ٹرک بالنوں کے منگوائے، ان پرانی بندو قوں کو جن کو زنگ
 لگ چکا تھا اور جو ناکارہ ہو چکی تھیں ان کو ہم نے نکلویا اور
 اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم نے افغانستان میں جہاد کا آغاز کیا۔
 اس وقت کے امریکی صدر نے مجھے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرنا
 چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ جنگ افغانستان کے لوگوں کی
 ہے، ہماری ہے، اگر آپ اصول پر مدد کرنا چاہتے ہیں تو
 ہم کو ٹی شرط قبول کرنے کے لئے تیار نہیں۔ اس کے بعد امریکن
 انتخابات ۱۹۸۰ء میں ہو گئے تو ان کو دعوت دی گئی اور اس
 وقت کے صدر جیمی کارٹر نے ان کو ۴۲۰ ملین ڈالر کی یا نہ معلوم
 کتنے ملین ڈالر کی امداد کی پیش کش کی اور انہوں نے کہا کہ
 یہ سینیٹ میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اس کے بعد جب
 ریگن صدر بنے، یہ بات میں کہہ رہا ہوں جو انہوں نے اس
 ہال کے اندر جہاں کم و بیش دو سو آدمی موجود تھے، امریکن
 موجود تھے، امریکن سفیر موجود تھا، کہی۔ جب صدر ریگن نے
 کہا کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی
 ملک پر کسی اور طاقت کا قبضہ کرنا، اس طریقے سے قبضہ کرنا
 بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہے تو میں نے کہا بسم اللہ
 آئیے۔ مدد کیئیے، اگر صرف دو شرائط آپ کو میری قبول ہوں، ایک یہ
 کہ آپ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے، جو نیوکلر پروسیسنگ پلانٹ
 ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، اگر آپ کی یہ شرط

ہے تو میں قبول کرنے سے انکار کرتا ہوں ، دوسری شرط یہ ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں آپ بات کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے ، یہ کام میرا ہے کہ میں ملک میں انتخابات کراؤں اور کب کراؤں ، کس طریقے سے کراؤں ، میں کسی بھی سپر پاور کی بلا دستی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ جناب والا! یہ تھے جنرل ضیاء الحق بین الاقوامی طور پر جناب ایک اور عظیم سیاستدان اور بین الاقوامی مدیر لی کوائن یو پاکستان کے اندر آیا، میں اس کے ساتھ تھا جب وہ صدر مملکت سے ملنے کے لئے گیا تو مجھے وہ الفاظ یاد ہیں جو وزیر اعظم لی کوائن یو نے صدر مملکت کے بارے میں کہے تھے۔

He said, Mr. President as some people used to call the reckless adventure of Zia-ul-Haq in Afghanistan has now started to pay. I am sure there must have been advisors around you, warning you about the hazards of pursuing the present Afghan policy. I am glad that you did not heed to their advice otherwise it would not have been such a big disaster for Pakistan but the entire free world. So, that was General Zia-ul-Haq.

جناب صدر ضیاء الحق کی ذات سے ، ان کا جو کردار تھا اس پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ ایک سچا مسلمان ، ایک کٹر پاکستانی ، ایک دیانتدار شخص ، ایک ملنسار شخص اور اس کے ساتھ ایک انتہائی مضبوط انسان ، مضبوط ارادے کا انسان ، اس کے نظریات سے اختلاف کرنا اور بات ہے۔ یقیناً اس ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی لوگ اختلاف کرتے ہوں گے ، لیکن اس نے ایک نئی طرح دی۔ پاکستان کے اندر ایک نئے اسلوب کو زندہ کیا ، وہ اسلوب

[Malik Nasim Ahmed Aheer]

تھا اسلام سے محبت ، اسلامی اقدار کا احیاء ، پاکستان کی جو سالمیت تھی اور آزادی اور خود مختاری تھی ، اس پر کسی قسم کی آپنج اس نے نہیں آنے دی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے شائستگی ، رواداری ، تدبر ، حوصلہ اور مخالفوں کے ساتھ ان کا سلوک رواداری کا منظر تھا ، یہ سب چیزیں جنرل ضیاء الحق میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں۔ جناب ضیاء الحق جنہوں نے اس ملک کے لئے ۱۱ سال تک کام کیا وہ اسلام ، پاکستان اور شائستگی اور شرافت کی سیاست تھی ، ہم نے اس کا زندگی میں ساتھ دیا ، ہم انشاء اللہ اس کے نظریات کا اس کی موت کے بعد بھی ساتھ دیں گے۔

جناب قائم مقام چیئرمین : شکر یہ ! جناب سلیم سیف

اللہ خان ۔

Mr. Salim Saifullah Khan: Thank you, Mr. Chairman. Sir, I would also like to pay homage to a great Muslim leader. I say a Muslim leader because General Muhammad Zia-ul-Haq was not only a leader of Pakistan but I would say that he was an international statesman also. Sir, in his death, in this untimely death I should say Pakistan has indeed lost a great leader. Sir, what does it take to become a great leader. Is it only to be patient or to be intelligent or to be hardworking or to be generous or to be magnanimous? These are the qualities one does require, Sir, but I feel the most important quality to be great is to be brave and courageous. I think, I feel and I know that General Muhammad Ziaul Haq was a brave man. He was a courageous man — a man who knew that his life was at stake, a man who knew that attempts had been made on his life; a man who knew there were powers trying to eliminate him, in the face of all this he could have stayed within the four walls of Presidency, he could have stayed in Islamabad, he could have stayed in Rawalpindi but he did not do so. Only a man of courage, a brave man would go out and I feel, Sir, that his contribution and his place in history will always remain.

Sir, I am going to be brief because my other colleagues would also like to express their sentiments. We have talked about Afghanistan and I need not dilate any further on this subject. We know of President Ziaul Haq's contribution towards this humanitarian issue but I would like to repeat, Sir, what Sahabzada Yaqub Khan said in a joint session when we were discussing the foreign policy of Pakistan that, "in Afghanistan not only that a country — an independent sovereign country — is being liberated and that a super power is withdrawing but that an example has been established for future generations that no super power will involve itself in adventurism and just walk into smaller, independent third world countries". Sir, I think this was a contribution to humanity and to the world.

Sir, in the end I would like to express and join the nation and all my colleagues in expressing profound sorrow and sharing the sorrow with the other bereaved families also, the other soldiers, generals and other persons who were also in the plane yesterday afternoon.

Sir, I think that in his death also he has vindicated his position that he was fighting for democracy, wanted to restore democracy in this country because I feel this is the first time that there has been a peaceful transfer of power as dictated to us by the Constitution of Pakistan. I think this is the only silver lining on the clouds that are there today — that we have a man like Mr. Ghulam Ishaq Khan, Chairman of the Senate, today as the President of Pakistan. I think he is a person who enjoys the complete confidence and support of the people of Pakistan. I need not go into details of his qualities. We all know him. He has been serving this country for almost since it has been created and even before that for that matter and I am sure that under his wise leadership Pakistan will continue to strive and continue to struggle for the goals, the aims and the objectives set by our late President.

Mr. Acting Chairman : Thank you. Next Maulana Samiul Haq.

مولانا سمیع الحق : بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین صاحب! موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں لیکن کسی کی موت پورے ملک کے لئے ایک المیہ بن جاتی ہے۔ بیشک ہم ایک قومی المیہ سے دوچار ہوئے ہیں۔ صدر ضیاء الحق مرحوم میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوش قسمت تھے، ان کی موت بھی عملاً ایک جہاد کی صورت میں شہادت کی اوت ہے کیونکہ وہ فوجی مشقوں

[Maulana Samiul Haq]

کو دیکھنے کے لئے گئے تھے۔ گویا ایک اسلامی مملکت کی سرحدات کی نگرانی کے مشن پر تھے اسے حدیث میں ربات کہا گیا ہے یعنی اسلامی مملکت کی سرحدات کی نگرانی اور اس کے لئے حفاظتی تدابیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عظیم درجات دیئے ہیں۔ ایک رات کی ربات ستر سال کی لیلۃ القدر سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو اللہ نے شہادت کا مقام دے دیا۔ بہر حال المیہ ہمارا ہے۔ ہمارے ہاں بلکہ پورے عالم اسلام میں بدقسمتی سے قیادت کا فقدان ہے۔ عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت قیادت کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو اس صدمے سے دو چار ہوئی ہے سہنے اور آزمائش سے سرفرو ہو کر نکلنے کی توفیق دے۔

اس وقت ایک عظیم مسئلہ جو افغانستان کا تھا صدر صاحب سے ہزار اختلاف کے باوجود مجھے اس مسئلے میں ان سے مکمل اتفاق تھا اور صدر صاحب کا مؤقف حق پر تھا۔ انہوں نے اسلام کے جرنیلوں کی تاریخ میں جہاد افغانستان کی شکل میں ایک عظیم سنہری باب کا اضافہ کیا ہے۔ ان کی کوششیں اور مجاہدین کی قربانیاں کامیابی سے ہمکنار ہونے والی تھیں کہ ایسی حالت میں یہ سانحہ پیش آیا۔ اس مسئلے میں حکومت پوری توجہ اسی مشن پر مبذول رکھنی چاہیے جو صدر ضیاء الحق نے شروع کرایا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی پالیسی کو جو افغان مسئلے میں صدر

صاحب مرحوم نے اختیار کی تھی اور اسی مشن کو جو ان کا تھا حکومت کو سامنے رکھنا چاہیے اگر عالمی سازشیں خدا نخواستہ کسی شکل میں اس کامیابی کو خطرات سے ہمکنار کرنا چاہتی ہوں اور اس میں شاید ایسے عناصر کا ہاتھ بھی ہو لیکن اس کا عملی جواب یہ ہے کہ ہم صدر صاحب کے مشن کو کامیابی سے ہمکنار کریں اور وہاں مجاہدین کو جب تک حکومت قائم کرنے کا حق نہ ملے ہم اس مشن کے تسلسل کو برقرار رکھیں۔

صدر صاحب مرحوم ایک ایسے وقت میں گئے ہیں جب کہ ہم مشرق و مغرب دونوں سرحدات پر انتہائی نازک خطرات سے دوچار ہیں ایسے موقع پر پوری قوم کے لئے، سیاستدانوں کیلئے، فوج کے لئے بھی اور حکمرانوں کے لئے بھی ایک امتحان ہے کہ ہم اس آزمائش میں مکمل یکجہتی، اتحاد اور تنظیم کو برقرار رکھیں اور قومی مفادات کو ترجیح دیں اور وقتی مفادات سے ہٹ کر ملک کی حفاظت و سلامتی پر پوری توجہ مبذول رکھیں، خدا نخواستہ ایسی حالت میں کوئی افزائش، ہنگامہ آرائی اور مفادات پر مبنی سیاست اگر سامنے آگئی تو ہم پہلے ہی بیرونی خطرات سے دوچار ہیں تو خدا نخواستہ ہماری داخلی کمزوری دشمن کے لئے بہانہ نہ بن جائے۔ یہ ایک امتحان مخالف اور موافق کے لئے ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں سارے اختلافات بھول جانے چاہئیں اور گویا جب تک ہمیں پورا اطمینان نہ ہو کہ اب ہم خطرات سے نکل چکے ہیں،

[Maulana Samiul Haq]

اس وقت تک ہم قومی مفاد کو سب سے پہلے نگاہوں کے سامنے رکھیں گے۔ ہم ایک نازک امتحان میں ہیں اور قوم کو یہ ثابت کرنا ہے کہ مارشل لاء کے بغیر بھی اور فوج کی چھتری کے بغیر بھی ہم آزمائش کی گھڑی میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ فوج نے نہایت تدبر، عاقبت اندیشی اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا ہے ورنہ گزشتہ رات فوج چاہتی تو پورے ملک کو کنٹرول میں لے سکتی تھی۔ مجھے آخری وقت تک کھٹکا تھا، مجھے اخبار والوں نے دو تین دفعہ پوچھا کہ آج صبح اجلاس ہو گا یا نہیں۔ میں نے کہا اگر سینیٹ رہی تو؟ خدا نخواستہ اگر ایسا اقدام ہوا ہوتا تو وہ اس ملک کو تباہی سے دو چار کر دیتا۔ گویا کابینہ اور جرنیلوں نے مل بیٹھ کر نہایت توازن اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا ہے۔ امید ہے کہ آج فوج پوری توجہ ملک کی سرحدات کی حفاظت پر مبذول رکھے گی اور اس موقع پر سیاست دان ثابت کر دیں گے کہ ہم فوج کے بغیر اور مارشل لاء کے بغیر بھی ملک کے نظم و نسق کو چلا سکتے ہیں۔

صدر صاحب کے اسلام کے بارے میں جو جذبات و احساسات تھے جو اعلانات تھے، آج رہ رہ کر ہمیں یہ خیال آتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ کاش وہ اپنے جذبات اور احساسات کو جو اسلام کے بارے میں تھے عملی شکل بھی دے سکتے۔ وہ اگر چاہتے تو اللہ نے ان کو گیارہ سال کا ایک عظیم موقع دیا تھا، یہ بہت

طویل مدت ہے ، میں نے اور دوسرے لوگوں نے بار بار انکو ہر طریقے سے کہا کہ اس موقع کو ، اس نعمت کو ، آپ اللہ استعمال کریں . آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے جرات مومنانہ سے کام لے کر جو بھی کرنا ہے ، وہ عملاً کریں اور اس قوم کو اپنی منزل مقصود تک پہنچائیں . یہ ٹھیک ہے کہ ان کے جذبات تھے ، انہوں نے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر مجھے کہا تھا کہ مولانا مجھ میں جرات مومنانہ الحمد للہ ہے ، میں نے کہا کہ اسے اللہ اور بڑھا دے . آپ اس کو استعمال کریں . بہر حال ایک ستہری موقع جو ان کے ہاتھ آیا تھا ، اس سے انہوں نے اسلامی نظام کے نفاذ کے سلسلے میں صحیح فائدہ نہیں اٹھایا . ورنہ آج تاریخ میں ان کا مقام عمر بن عبدالعزیز اور اورنگ زیب عالمگیر سے کم نہ ہوتا . ہمیں یہ حادثہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی نعمت اور موقع ملتا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے . اس کی شکرگزاری بھی ہے کہ جس مقصد کے لئے اللہ نے ذرائع دیئے ، وسائل دیئے ہیں ، توفیق دی ہے ، اسباب دیئے ہیں ، اس کو اسی مقصد کے لئے استعمال کر لیا جائے تو بہتر ہے . ہمارے سامنے دو سانچے آئے ہیں . ایک قومی اسمبلی کو توڑنے کی شکل میں ، اور دوسرا اس المناک سانحہ کی شکل میں . ان دونوں سے حکومت کو اور سینٹ کو اور پوری انتظامیہ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے ، یہ عبرت کا سامان ہے . اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ جو موقع دیتا ہے ، اسے اگر انسان گنوا بیٹھے تو بعد میں افسوس اور

[Maulana Samiul Haq]

پچھتاوے سے کچھ نہیں ہوتا، بہر حال ان کا دور اس ملک کے لئے بحیثیت مجموعی ایک شرافت کا دور تھا، وہ ایک شریف النفس سیاست دان تھے، وہ ایک متواضع انسان تھے، اور متوازن انسان تھے۔ آج ہم اور پوری قوم ان کی جدائے غم میں شریک ہے۔ ان کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے لئے دعائے مغفرت کریں اور ان عظیم جرنیلوں اور ملک کے سپاہیوں کے لئے جو ان کے ساتھ اس سانحے میں شہید ہوئے ہیں، دعائے مغفرت کریں۔

ہمیں خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمام اقتدار اس شخص کو دی ہے جو ہمارے اس ایوان میں سے تھا جو گویا کہ اس گھر کا ایک ممبر تھا، ہماری برادری سے جس کا تعلق تھا، وہ ایک فنیجے ہوئے سنجیدہ، تجربہ کار اور متحمل مزاج سیاست دان بھی ہیں اور انکی شخصیت ایسی ہے کہ ان کو تمام چیزوں کا تجربہ حاصل ہو چکا ہے۔ قوم کے مسائل اور حالات پر ان کی نظر ہے۔ ملک میں جو بیماریاں ہیں، ان کی تین سال میں مسلسل نشاندہی کرائی گئی ہے۔ امید ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو نگاہ میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی غیبی تائید فرمائے اور ان کو توفیق دے کہ جمہوری طریقے سے، آئینی تقاضوں کے مطابق اس ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکیں اور ملک کو صحیح جمہوریت دے سکیں۔

جناب قائم مقام چیئرمین : شکریہ ! جناب مصطفیٰ صادق

صاحب۔

جناب مصطفیٰ صادق : جناب والا ! میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے محبوب اور محروم قائد کے متعلق ان کی تعزیتی قرارداد کے بارے میں چند جملے عرض کرتے کا موقع دیا۔ اس لئے کہ میں اس ایوان میں ایسا نووارد ہوں کہ مجھ سے زیادہ شاید کوئی بھی نووارد نہیں ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے میں مرحوم صدر ضیاء الحق کو بالخصوص ان کے سفر میں بہت قریب سے دیکھ چکا ہوں اور اب میں صرف ایسی ہی باتیں عرض کرنے پر اکتفا کروں گا جو ان کے بیرونی ملکوں کے سفر سے متعلق ہیں اور ابھی تک اس ایوان میں نہیں کہی گئیں اور شاید نہ ہی کہی جائیں گی۔

ان کا سفر دیارِ پاک کی طرف میں نے ان کی اقتداء میں بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں نماز پڑھی ہے ، اور میں نے ان کو اس طرح روتے دیکھا ہے کہ مجھے یقین ہوتا تھا کہ ان کے ایک ایک آنسو میں اللہ کی رحمت اس حد تک شامل ہے کہ ان کا ہر آنسو وفاق کی سالمیت کا تحفظ ، قوم کی وحدت کا تحفظ اور اسلام کی سر بلندی کا ضامن ہے ۔

جناب چیئرمین ! میں نے اپنے مرحوم صدر کو بیت اللہ کے اندر جا کر دیواروں کو اور فرش کو جھاڑو سے صاف کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جب وہ باہر آتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ

[Mr. Mustafa Saddiq]

صدر مملکت اپنے ملک کے لئے، اپنی قوم کے لئے وہ سب کچھ لے کر آئے ہیں جو اس ملک اور قوم کو مطلوب تھا۔

جناب چیئرمین! میرے مرحوم صدر، میرے مرحوم قائد جب مسجد نبوی میں جاتے تھے، جب وہاں تراویح پڑھتے تھے، جب وہاں صبح کی نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جا کر روضہ سے لپٹ کر، میرا بچھڑنے والا قائد جب روتا تھا، تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی بچے کی ماں مر جائے تو روتا ہے۔ ان کی وہاں ہچکیاں بندھ جاتی تھیں اور مجھے یقین ہوتا تھا کہ میرا مرحوم صدر فی الحقیقت نہ صرف اپنی قوم کے لئے، نہ صرف اپنے ملک کے لئے بلکہ ملت اسلامیہ کے لئے وہ سب کچھ حاصل کر کے نکلا ہے جو اسے مطلوب تھا۔

یہاں کہا گیا ہے اور بجا طور پر کہا گیا ہے کہ قائد اعظم مرحوم کے ساتھ ارتحال کے بعد یہ دوسرا قومی المیہ ہے جو صدر ضیاء الحق کی شہادت کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ میں اس میں اتنا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس لحاظ سے ملت اسلامیہ کا دوسرا سانحہ ہے جو فیصل شہید کی شہادت کے بعد پیش آیا ہے۔

جناب چیئرمین! میں نے سفر کے بارے میں عرض کیا ہے ایک سفر دیار مغرب کا تھا، باتیں بہت طویل ہیں، بہت کچھ کہا

جاسکتا ہے ، امریکہ کا سفر تھا ، ہوسٹن میں لیڈی میٹر کی طرف سے دعوت استقبالیہ تھی ، جب لیڈی میٹر نے اعلان کیا کہ آج میں اس مہمان کو اپنی میزبانی کی پذیرائی دے رہی ہوں کہ جس کے مذہب میں ، جس کے دین میں شراب جائز نہیں ہے لہذا میں اپنے مہمانوں کو شراب پیش نہیں کر سکوں گی ۔ تو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ مجھے یقین ہوا کہ سچا اسلام کا سفیر صرف صدر ضیاء الحق ہے اور اگلے دن ہوسٹن ٹائمز جو وہاں کا مقامی اخبار تھا، اس کی سات کالمی سرخی تھی کہ

“Long Arms of Islam Reached Houston”

جناب چیئرمین ! میں اپنی بات اس طور پر ختم کرتا ہوں کہ اے مرحوم صدر ، اے میرے محبوب قائد صدر ضیاء الحق آسمان تیری لمحہ پر شبہم افشانی کرے

شکر یہ !

جناب قائم مقام چیئرمین : شکر یہ ! جناب محمود احمد منٹو

صاحب ،

خواجہ محمود احمد منٹو : صدر محترم ، آج دل بہت غم سے بھرا ہوا ہے ، جو ریزولوشن جناب وزیر قانون صاحب نے ریفرنس پیش کیا ہے ، وہ ہمارے خیالات کی پوری طرح ترجمانی کرتا ہے اور میں ایک بات اس ضمن میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو صدر مرحوم و مغفور کی پالیسیاں تھیں ، جن کی بعض

[Khawaja Mahmood Ahmed Minto]

لوگ مخالفت بھی کرتے رہے ہیں ، بعض لوگ موافقت بھی کرتے رہے ہیں ، ان کے بیان کرنے کا یہ وقت نہیں۔ کیونکہ جس وقت کوئی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے ، تو کہا یہ جاتا ہے کہ مرنے والے کے کوئی عیب نہیں گنتے چاہئیں ، خوبیاں بیان کرنی چاہئیں اور جو خوبیاں بیان کرتے ہیں ان کو یہ پورا حق ہوتا ہے وہ اپنے تجربات کے مطابق پوری باتیں کہیں لیکن دوسری طرف یہ بد مذاقی کا ثبوت ہوتا ہے کہ اگر میں اس وقت یہ بحث چھیڑ کر بیٹھ جاؤں کہ وہ جمہوریت کے قائل تھے یا آمریت کے قائل تھے ارے بھائی ، یہ بحثیں تو چلتی رہیں گی یہ سینٹ ختم نہیں ہوگئی ، کوئی اسبلیاں ختم نہیں ہوگئیں ، یہ پالیسیاں ختم نہیں ہوگئیں۔ یہ چلتی رہیں گی۔ میں مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو چھیڑنے کا وقت نہیں ، ان کے محاسن ، ان کے خوبیوں ، ان کی خدمات ، ان کے تحمل ، ان کی شرافت پر باتیں کیجیئے اور اللہ میاں سے یہ دعا کیجیئے کہ اللہ ان کی مغفوت کرے۔

ہمارے تمام جرنیلوں کی بھی ، جو فوجی خدمت کے سلسلے میں وہاں گئے ، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اور ہم لوگوں کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کا نعم البدل عطا کرے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صدر جنرل محمد ضیاء الحق بہت سی خوبیوں کے مالک تھے۔ سب سے بڑی خوبی انسان میں وہ ہوتی ہے کہ باوجود اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہونے کے ، اونچی

کرسی پر بیٹھے ہونے کے ، اگر اس کے سامنے کچھ کہا جائے یا اس کے سامنے کوئی اعتراض کیا جائے تو وہ خذہ پیشانی سے سُسنے اور محبت سے اس کا جواب دے اور سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرے۔ یہ خوبی ہمارے مرحوم و مغفور صدر صاحب میں تھی۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ بیشتر لوگ ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں جو آج دل گرفتہ اور مغموم ہیں اور ان کی مغفرت کے لئے دعا کرتے ہیں۔ اس وقت لمبی باتوں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے تمام ملتِ اسلامیہ کی جو خدمت کی ہے وہ سب لوگوں نے بیان کر دیا ہے، میں بھی اس کے ساتھ متفق ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی خدمت ہے۔

گھر کے معاملات جو ہیں ان کے متعلق جیسے میں نے عرض کیا یہ باتیں ہوتی رہیں گی، کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا اور احوال کی اصلاح کے لئے لوگوں کے نمائندے آپس میں بیٹھ کر انہیں طے کرنے کے لئے ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ایک یا ت شاید میں اپنے فرض سے کوتاہی کروں گا اگر نہ کہوں کہ اس خاص موقع پر بعض لوگوں کا، بداندیشوں کا خیال تھا کہ شاید فوج کے کچھ لوگ مداخلت کر کے اقتدار سنبھالنے کی کوشش کریں گے یا ماشاء اللہ لگائیں گے لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ فوج کی جتنی عظمت پیار، محبت اور قدر و قیمت پاکستانیوں کے دل میں ہے وہ آج دگنی ہو گئی کیونکہ انہوں نے اس قسم کی کوئی ناجائز

[Khawaja Mahmood Ahmed Minto]

کوشش نہیں کی۔ قوم کو کسی قسم کی زک دینے کے کوئی کوشش نہیں کی بلکہ نہایت ہی تدبیر کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارے وزراء کے ساتھ شامل ہو کر حکومت کو مشورے دیئے اور اللہ کرے کہ یہ چیز چلتی رہے اور اسی طرح چلتی رہے۔ میں اب پھر مرحوم و مغفور کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہوں، اللہ ہمارے سب مرحوم جرنیلوں اور مرحوم صدر کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔ شکر یہ!

جناب قائم مقام چیئرمین : جناب جنرل فضل حق صاحب

Lt. Gen. (Retd.) Fazle Haq : Mr. Chairman, I rise to pay homage to my friend of forty years, General Muhammad Zia-ul-Haq, the President of Pakistan and the Chief of Army Staff of the Pakistan Army. I had known the General for forty years. We had served together in various parts of Pakistan and from 1977 to 1985 we came to know each other very well and very deeply. I think his qualities are known to all of us. He was a devout Muslim. He was a patriotic Pakistani. He was a competent General and he was a statesman who steered the policies of this State through some very turbulent history of ours. I think his personal qualities of which, if I was to point out, one was humility. He was a very humble person who was kind to all and humility was the hall mark of his character. He was a democrat in his soldier's exterior. He consulted all, he listened to all, he did what he thought was in the best interest of State. He produced a congenial team. A team composed of very diverse characters and it was his quality of leadership that forged that homogeneous into an effective and a competent team. He was an affectionate father and a devoted husband. He was a pious man as I stated earlier. I would not like to say all that he did for this country but suffice it to say that, I think, he served this country to the last breath of his life. The enemies of Pakistan succeeded in eliminating him from the scene whether they were RAW of the India or they were KGB or they were our internal people who are inimical to him that, I think, in due course of time we shall determine by the grace of Allah. All I can say is, may God bless his soul and may God grant courage not only to his family but to all of us to bear this loss with dignity and courage. Thank you.

سید وصی مظہر ندوی : میں اپنی گفتگو کا آغاز قرآن حکیم کی ایک آیت سے کرتا چاہتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن ذحرج
عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع العرور

اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دوسری حقیقت جس کی طرف لوگ کم توجہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بتلائی گئی کہ تمہارے کام کی پوری پوری مزدوری صرف قیامت کے دن ہی مل سکتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ دنیا اتنی محدود ہے اور زندگی اتنی مختصر ہے کہ نہ بدی کرنے والوں کو ان کی بدی کی یہاں پوری سزا مل سکتی ہے اور نہ نیکی کرنے والوں کو یہاں پورا بدلہ مل سکتا ہے، یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب ایک یوم الحساب ہو اور وہاں ایک ابدی زندگی ہو کہ جہاں ہر شخص کو اس کی بدی اور نیکی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ تو یہ دوسری حقیقت اس آیت میں بتلائی گئی کہ تمہارے اجر صحیح معنی میں پورے پورے قیامت کے دن ہی دئے جاسکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ”جو شخص جہنم سے دُور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے“ آیت کے اس ٹکڑے میں کامیابی اور ناکامی کا معیار بتایا گیا ہے جو قرآن نے ہمیں

[Syed Wasi Mazhar Nadvi]

سکھایا ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے کوئی شخص بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اس سلسلے میں جناب صدر مملکت ہمارے محبوب قائد جنرل محمد ضیاء الحق کے بارے میں، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ خود قرآن کی شہادت کی رو سے یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فرحين بما آتاهم اللہ من فضله ويستبشرون بالذین لم یلحقوا بصر من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس پر وہ خوش ہوتے ہیں اور اپنے بعد میں آنے والوں کے لئے جو ان کی راہ پر چلنے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں انہیں خوشخبری حاصل ہوتی رہتی ہے کہ وہ بھی کامیابی سے ہمکنار ہونگے اور آیت کا آخری حصہ جس کا ترجمہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، صرف نظر کا فریب ہے، یہ مٹ جانے والی ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔

جناب چیئرمین! میں یہ عرض کروں گا کہ جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے نہایت مقتدر اعلیٰ ہونے کے باوجود جس تواضع، جس علم، جس بردباری کا ثبوت دیا ہے وہ درحقیقت مشیت الہی اور تقویٰ سے پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص پانچ وقت اپنے جسم کا سب سے زیادہ معزز حصہ یعنی پیشانی اور ناک پروردگار کے سامنے رکھتا ہے اس کے دل میں کبھی تکبر اور غرور

پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہے کتنا ہی مقتدرِ اعلیٰ ہو لیکن اسے پتہ ہے کہ اس سے بڑھ کر مقتدرِ اعلیٰ وہ ہے جس نے اس مقام پر اسے پہنچایا ہے۔

آخری بات میں یہ عرض کرتا چاہتا ہوں کہ آج کی تمام گفتگو میں شاید ہم اس پہلو کو نظر انداز کر گئے ہیں کہ ہم ایک خوددار اور غیرت مند قوم کی حیثیت سے اس بات کے کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ اگر کسی دشمن نے سبوتاژ کے ذریعے اور سازش کے ذریعے ملت پاکستان اور ملت اسلام کو ایسے محبوب، بیہمتال قائد سے محروم کیا ہے تو ہم اس جرم کو کبھی فراموش نہیں کریں گے اور اس دشمن کے ساتھ وہی رویہ اختیار کریں گے جو اس گھناؤنے جرم کے مرتکب دشمن کے ساتھ ایک خوددار قوم کو رکھنا چاہئے۔ ہمارا یہ عزم ہے کہ جو ہمارے دشمن باہر ہیں یا اندر ہیں اگر وہ ہمارے ملک کے استحکام اس کی سالمیت کے دشمن ہیں تو ہم بھی یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے عزائم کو ناکام کرنے کے لئے اپنی بھرپور طاقت صرف کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عزم میں ہماری پوری تائید فرمائے گا۔

آخر میں صدر مملکت جنرل محمد فیاض الحق صاحب مرحوم اور ان کے وہ تمام ساتھی جو ایک جہاد کے مرحلے پر جاتے ہوئے اور اور اپنا فرض ادا کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، دعائے مغفرت

[Syed Wasi Mazhar Nadvi]

کرتا ہوں۔ مجھے کل ہی ایک فوجی افسر نے بتایا کہ انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری موت وردی ہی کی حالت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا اور وہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے ساتھ جتنے لوگ اس ذمہ داری میں ان کے ساتھ شریک تھے اور اس حادثے میں دشمنوں کی سازش کا شکار ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے اور ان کے پیمانندگان کو اور پیمانندگان ہی کو نہیں پوری ملت اسلامیہ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔

جناب قائم مقام چیئرمین: جناب محرم محمد اسلم خان خٹک صاحب۔

جناب محمد اسلم خان خٹک: آعوذ باللہ من الشیطن الرجیم۔ بسم

اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین! اس موضوع پر تقریر کرتے ہوئے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں خواب گراں میں ہوں یا تخیل کے میدان میں پھر رہا ہوں۔ حقیقت پر اعتبار نہیں آ رہا۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور ہر چیز کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ آج میرے دوستوں نے تقاریر کیں اور ہر موضوع پر تقریر ہوئی اور اپنے جذبات کا انہوں نے ہر طریقے سے اظہار کیا۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن میں اپنے دلی جذبات بیان کروں۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا۔ پریذیڈنٹ کو دوست تو میں نہیں کہتا کیونکہ پریذیڈنٹ

پریذیڈنٹ ہوتا ہے، رئیس جمہوریہ ہوتا ہے لیکن وہ ایک مشفق، ایک مہربان اور ایک ایسا شخص تھا۔ میری ایک عادت ہے اور وہ یہ ہے کہ جو میرے دل میں ہو وہ بات میں زبان پر لاتا ہوں خواہ کسی کا بھی دربار ہو اور بسا اوقات میں ایسی باتیں ان کے سامنے کہا کرتا تھا اور بعد میں شاید پشیمان بھی ہو جاتا تھا کہ بھئی وہ صدر جمہوریہ ہے مجھے اس کے سامنے ایسی سخت باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ بہر صورت ان کا عجز اور انکسار جو تھا جس کا ذکر ان کے قریبی دوست جنرل فضل حق نے کیا اور اس کا میں بھی بڑا معترف ہوں کیوں کہ میں بڑے درباروں میں رہ چکا ہوں، بڑے ڈکٹیٹروں کے پاس، شہنشاہوں کے پاس، بادشاہوں کے پاس اور جو غرور اور تکبر ان میں ہوتا تھا وہ بھی میں دیکھ چکا ہوں۔ میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے ایک بہت بڑی شخصیت کے سامنے ایک اس کے مالی اور اس کے بیٹے کو سجدے میں گرتے ہوئے دیکھا اور یہاں پر یہ حالت تھی کہ کوئی شخص باہر سے مہمان آئے تو صدر صاحب کوشش کرتے تھے کہ ان کی موٹر کا دروازہ وہ خود کھولیں۔ بسا اوقات ہم اس بات پہ شرم محسوس کرتے تھے کہ جب تک ہم موٹر میں سوار ہو کر چلے نہیں گئے صدر صاحب وہاں کھڑے رہتے اور سلام دے رہے ہوتے۔

بہر صورت اس موقع پر کئی دوستوں نے سیاسی باتیں بھی کہیں لیکن میں جناب شاد محمد خان اور جناب محمود احمد منٹو صاحب

[Mr. Muhammad Aslam Khan Khattak]

سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ وہ موقع نہیں ہے کہ ہم سیاست کی باتیں کریں یا ہم ایسی بات کریں جس میں کسی قسم کی بھی کوئی criticism نظر آئے۔ کوئی بھی انسان perfect نہیں ہوتا، perfect

ذات ایک ذوالجلال والا کرام ہے۔ لیکن جو شخص جنرل ضیاء الحق صاحب صدر، جمہوریہ کو قریب سے جانتا تھا، خدا شاہد ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ وہ ایک پابند صوم و صلوة اور سچے مسلمان تھے اور جب کبھی ان کے سامنے کوئی ایسے مراحل پیش آتے جو سنگین ہوتے تھے یا دشوار ہوتے تھے یا بین المللی ہوتے تھے یا اندروں ملک سے تقاضا کرتے تھے تو ان کا ایک دستور تھا کہ وہ ہمیشہ استخارہ کرتے تھے اور کئی کئی دن تک استخارہ کرتے تھے اور اس استخارہ میں جو ہمارے مسلمانوں کا ایک طریقہ ہے، ان کو جو بشارت ملتی تھی اس پر وہ عمل پیرا ہوتے تھے۔ میں جناب پرہ ور سعید کے ساتھ پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ جس کو آپ hundred

percent کہیں کہ یہ جہاز اس قسم کا جہاز تھا کہ جس کی خوبیاں بیان کرنے سے میں قاصر ہوں لیکن ان کی خوبیاں ان کے جرنیلوں اور ایئر مارشلوں نے الہم شرح کی ہیں۔ یہ واقعہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس طریقے سے ہوا اور کس suddenness سے ہوا۔ جو اس میں پسینگر تھے یا جو پائلٹس تھے ان کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلا۔ جہاز میں ایک بلیک باکس ہوتا ہے اس میں سے کچھ نہیں ملا۔ کچھ تو ہوتا ہے اگر آپ کو میزائل لگے یا کچھ لگے تو آپ کہتے ہیں کہ

وہ تو بس ریڈار نے کہا۔ I am on fire or I am coming down بھٹی

all of a sudden it disappeared

جہاز اتنا اونچا ہوا اور

اور اس میں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ تو یہ یقیناً سو فی صد
تخریب کاری ہے اور اس تخریب کاری کا معلوم کرنا حکومت
کا فرض ہے اور جس کا اعلان موجودہ صدر جمہوریہ کر چکے ہیں اور
وزیر دفاع صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی پوری تحقیق ہوتی
چاہیے کیونکہ اس کے کئی پہلو نکل سکتے ہیں اور قوم ضرور یہ جاننا
چاہے گی کہ یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ میں البتہ یہ عرض کر دوں
کہ تقریباً دو مہینے پہلے مجھے بڑے باوثوق ذریعے سے ایک خبر
ملی تھی، اور وہ خبر یہ تھی کہ جناب آپ کا دشمن اس چیز سے
بالکل disappoint ہو گیا ہے، نا امید ہو گیا ہے کہ ملک کے اندر
انقلاب آسکتا ہے اور اس نے اب ایک دوسرا لائحہ عمل اختیار
کیا ہے اور وہ یہ ہے۔

the assassination of important personalities

میرے خیال میں، میں نے اس کے بعد وزیر داخلہ کو بھی کہا
اور جناب ریٹیس جمہوریہ صدر صاحب کو خود کہا۔ میں نے کہا کہ
آپ اس تمام بزنس اور آرگنائزیشن کے اس وقت ستون ہیں
اور یہ جو چیز ہے اس کا اشارہ آپ کی طرف اولین ہے لہذا
مہربانی کر کے جو آج کل کا طریقہ کار ہے اس کو بدلیں۔ تو انہوں
نے کہا کہ ہاں آپ درست کہتے ہیں لیکن زندگی اور موت تو اللہ
کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا اللہ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے

[Mr. Muhammad Aslam Khan Khattak]

کہ انسان خود بھی کوشش کرے اپنے تحفظ کی بہر صورت جو ہوتا تھا وہ ہو گیا۔ اس وقت اگر میں وہی آیت دوبارہ دہراؤں کہ "الذی خلق الموت" تو میرے خیال میں یہ خدا کے سامنے بڑی صفائی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا ان سے ہو سکتا تھا عالم اسلام کے لئے اور دین کے لئے اور مذہب کے لئے انہوں نے کیا اور جو جہاد انہوں نے جاری کیا اور جہاد میں انہوں نے پاکستان کو شامل کیا باوجود تمام خطرات کے، باوجود تمام دھمکیوں کے وہ ثابت قدم رہے اور آج خدائے عزوجل کا بڑا بڑا شکر ہے کہ پاکستان آج سرفرو ہو رہا ہے کہ افغانستان سے ایک بڑی جابر اور طاقتور قوم کے فوجیں واپس جا رہی ہیں اور ایک اسلامی سلطنت انشاء اللہ پھر اسی طرح آزاد رہے گی۔

جناب والا! میں آخر میں کیا کہوں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریقِ رحمت کرے اور ان کے ساتھ جو اور لوگ شہید ہوئے ہیں، ان میں بھی ہمارے بڑے بڑے عزیز دوست تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ غریقِ رحمت کرے اور ہماری سب قوم کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی families کو صبر اور اطمینان دے اور خدائے تعالیٰ ہماری قوم کو یہ ہمت دے کہ اس مشکل وقت میں ہم ایک جگہ کھڑے ہو کر کے واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً، کے مترادف آگے بڑھیں کیوں کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے

کہ ہمارے مشرق میں کیا حالات ہیں اور ہمارے مغرب میں کیا حالات ہیں، ان حالات کے باوجود اگر ہم میں خود استحکام اور یگانگت کا احساس نہ ہو تو پھر اپنے آپ ہی سے گلہ ہے اور کسی سے نہیں۔ جناب والا! میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ چند الفاظ آپ نے مجھے کہنے دیئے اور خداوند تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو بھی طاقت دے جو موجودہ حکومت ہے، فی الحال عارضی ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے جو نئے صدر ہیں وہ ایک تجربہ کار شخص ہیں اور امید ہے کہ ان کی سربراہی میں ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے، شکریہ!

جناب تانمقام چیئرمین: شکریہ! سردار فتح محمد ایم

حسنى۔

سردار فتح محمد ایم حسنى: مجھے افسوس ہے کہ میں سینئر منسٹر کے بعد

بول رہا ہوں مجھے ان سے پہلے بولنا چاہیے تھا لیکن اظہارِ تعزیت کے لئے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں یہاں دو بول بول لوں، ہمارے محبوب صدر جنرل محمد ضیاء الحق اور ان کے رفقاء کے کار کے اس المناک واقعہ پر میں اپنی اور اہل بلوچستان کی جانب سے اپنے دل کی انتہائی گہرائیوں سے اظہارِ غم کرتا ہوں اور آج ہمارے ایک دوست نے سینٹ میں یہ فرمایا کہ اس عظیم واقعہ سے پاکستان میں

[Sardar Fetah Muhammad M. Hasani]

کوئی خلاء پیدا نہیں ہوا ہے، میں اس کی وضاحت صرف اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جنرل محمد ضیاء الحق جیسے مجاہد کے جانے سے پاکستان میں خلاء پیدا نہیں ہوگا تو پھر کس کے لئے خلاء پیدا ہوگا۔ یہ سب کو ننانوے فیصدی یقین ہے کہ کل کا یہ المیہ سبوتاژ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب کہ یہ سبوتاژ ہے تو ہم پھر اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ یہ کن لوگوں نے سبوتاژ کرایا ہے۔ عالم اسلام کے ایک عظیم مجاہد کو ہم سے کس نے جدا کیا، جیسے ہمارے سینئر منسٹر صاحب نے کہا کہ ایک سپر پاور نے کہا تھا کہ ہم افغانستان کے مسئلے میں پاکستان کے ساتھ یا افغانستان کے مجاہدین کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے جس کے لئے ہم دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہیں اور میرے خیال میں اگر یہ سبوتاژ تھا تو یقیناً یہ ان کا دوسرا راستہ ہوگا جو انہوں نے ہمیں دکھا دیا، جنرل محمد ضیاء الحق کے جانے سے صرف پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا بلکہ عالم اسلام کو نقصان پہنچا ہے۔ اگر جنرل محمد ضیاء الحق کے جانے سے عالم اسلام کو نقصان پہنچا ہے۔ تو پھر ہمیں اس معزز ایوان میں کم از کم اقرار کرنا چاہیے کہ پاکستان کے ایک سپاہی نے پاکستان اور اسلام کے لئے اپنی جان دے دی، ہمیں یہ اقرار کرنا چاہیے کہ یہاں ہمارے ملک میں یہ خلاء پیدا ہوا ہے جب عالم اسلام اس کمی کو محسوس کر رہا ہے تو ہمیں بھی اس کمی کو محسوس کرنا چاہیے۔

میں آخر میں پھر اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ میں جنرل محمد ضیاء الحق اور ان کے رفقاء کار کے اہل خانہ کے ساتھ غم میں برابر کا شریک ہوں اور میں اپنے طور پر یہ کوشش کروں گا جیسے نسیم آہیر صاحب نے یہاں فرمایا کہ ہم ضیاء الحق کے اسلامائزیشن کے اصول پر انشاء اللہ قائم رہنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ!

جناب قائم مقام چیئرمین : شکریہ ! معزز اراکین سینیٹ، میں بھی آپ کے جذبات میں برابر کا شریک ہوں اور اس موقع پر آپ کو یہ بتاتے ہوئے انتہائی رنج و غم محسوس کر رہا ہوں کہ صدر پاکستان جناب ضیاء الحق کل شام بہاولپور کے قریب طیارے کے ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے، اناللہ وانا الیہ راجعون، ابھی تک موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق جناب ضیاء الحق کے ساتھ ۲۹ دیگر افراد بھی اس حادثے میں جاں بحق ہوئے، ان میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل اختر عبدالرحمن، چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل میاں محمد انصاف اور آرمی کے دیگر افران شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں امریکہ کے سفیر مسٹر رافیل بھی اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں، مرحوم صدر نے گیارہ سال تک ملک کا انتظام و انصرام انتہائی خوبی کے ساتھ چلایا، وہ اعلیٰ اخلاق، شرافت اور متانت کے پیکر تھے، وہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے اور آپ کا دل اسلام کی تڑپ سے لبریز تھا، وہ غریبوں کے خیر خواہ اور بھروسہ

[Mr. Acting Chairman]

تھے۔ انہوں نے ملک میں اسلامی اقدار کو فروغ دینے کے لئے بھرپور کوشش کی، اس ضمن میں زکوٰۃ اور عشر کے نظام کا بالخصوص ذکر کرنا چاہوں گا جس سے ملک کے غریب لوگوں کی بھلائی کے لئے خاطر خواہ کام ہو رہے ہیں، ملک میں معیشت کو اسلامی ڈھانچے میں ڈھالنے کے لئے خاصی پیش رفت ہوئی ہے، اس دور میں پاکستان کے اندر ایک بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی بھی قائم ہوئی ہے جس میں اسلامی امور پر اعلیٰ تعلیم کا انتظام ہوا ہے کیوں کہ آپ سب حضرات اسلام کی کوششوں اور شریعت کے نفاذ کے لئے پیش رفت سے واقف ہیں لہذا اس سلسلے میں زیادہ نہیں عرض کروں گا۔

مرحوم صدر جالندھر کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے، انہوں نے ۱۹۴۵ء میں فوج میں کمیشن حاصل کیا اور اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنا پر تیس سال کے اندر جنرل کے عہدے پر ترقی پا گئے، مرحوم صدر یکم مارچ ۱۹۷۶ء سے لے کر کل شام تک چیف آف دی آرمی سٹاف کے عہدے پر فائز رہے، ان کی اس ناگہانی موت سے وطن ایک بطل جلیل سے محروم ہو گیا ہے۔ اس سائنسہ عظیم پر جتنا بھی غم کیا جائے کم ہے، ملک کے اندر دس دن تک مرحوم صدر کے انتقال پر سوگ منایا جا رہا ہے اور تین دن تک تمام سرکاری دفاتر بند رہیں گے۔ مرحوم صدر نے اللہ کے لئے بھی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں جس کی بنا پر انہیں مسلمانوں کے لئے ایک عظیم لیڈر کے طور پر دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا ہے اس حیثیت میں انہوں

نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو بھی خطاب کیا۔ بنا بریں مجھ
 امید ہے کہ تمام مسلم ممالک ان کی موت کا سوگ منائیں گے
 اس حادثے میں ملک کے کئی نامور فوجی افسر بھی ہلاک ہو گئے
 ہیں، ان کے علاوہ پاکستان میں امریکہ کے سفیر جناب ارنلڈ
 رافیل اور ایک فوجی افسر بریگیڈیئر جنرل Wasoom بھی ہلاک ہو
 ہیں، ہمیں ان تمام افراد کی اس اچانک اور المناک موت پر انتہائی
 ہے، خداوند تعالیٰ تمام مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا
 فرمائے، آمین، ثنم آمین۔

اب میں آپ کے سامنے وہ قرارداد پڑھوں گا جو کہ وسیع
 سجاد صاحب نے پیش کی ہے:-

This House fully participates in the grief of the nation. This House extends its sincere condolences to the bereaved family and prays that the Almighty rest the late Gen. Muhammad Zia-ul-Haq in peace and the family may have courage to bear this irreparable loss. This House also expresses its grief and sorrow at the loss of other valuable lives in the same aircraft which included Gen. Akhtar Abdur Rehman, Gen. Afzal and other officers and staff of the Armed Forces. This House is also grieved at the passing away of the distinguished diplomat Mr. Arnold Raphel, U.S. Ambassador in Pakistan. This House extends its sympathy to the families of all the persons who died in this crash. This House also shares the grief of the people of the United States of America and the Government of the United States on the sad demise of Mr. Raphel and Gen. Wasoom also of the United States Army at the Embassy in Pakistan.

This House also desires that the copies of this resolution may be transmitted to the grieving families of the deceaseds.

Now I read the Prorogation Order :

"In exercise of the power conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the Senate on the conclusion of its sitting on the 18th August, 1988".

Sd/-

(GHULAM ISHAQ KHAN)

President.

So, the House is adjourned *sine die*.

[The Senate prorogued *sine die*]
